

DATA ENTERED

مَنْ كَلَّمَ كَلِمَةً طَيِّبَةً أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَأَوْفَرُهَا نَوْرٌ

نورِ حَقِّكَ كَا جِهَانِ أَجَالَا هِي
بُولِ أَحْمَدِ عَلِيِّ كَا يَا لَالَا هِي
(رَعْنِي)

ملفوظات احمد علی
مولانا
رحمة اللہ علیہ

شیخ طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ قطب الاقطاب، شیخ التفسیر
حضرت مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریروں کے اقتباسات کا

ایک گرانقدر اور بے مثال مجموعہ

مرتبہ

محمد عثمان غنی - بی اے

دفتر انجمن خدام الدین - اندرون و وزارت شیر نوالہ لاہور

ہدیہ - تین روپے

اگست ۱۹۶۷ء

بار اول - تعداد ایک ہزار

انتساب

جانشین شیخ القسیر

حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی

کتاب

۱۲۶۱۱
۲۶۹۲
۱۹۶۲

۳
DATA ENTER
کام

حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و فرمودات کا یہ حسین
گلدستہ آپ کی تقاریر جمعہ و مجالس ذکر کا ایک اچھوتا انتخاب ہمارے محترم بھائی
جناب محمد عثمان غنی صاحب بی اے کی کاوش نظر و فکر کا نتیجہ ہے۔
موصوف نے یہ سعی مشکور اس لئے فرمائی ہے کہ ہمارے وہ احباب جو پورا
ذخیرہ خطبات جمعہ و تقاریر مجالس ذکر بالاستیعاب مطالعہ نہیں کر سکتے وہ حضرات
بھی حضرت شیخ التفسیر کے ارشادات اور تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب بطور
مشتمل نمونہ از خروار سے ملاحظہ فرما سکیں۔

دعا ہے کہ جس نیک مقصد سے یہ خدمت انجام دی گئی ہے حق تعالیٰ اسے شرف
قبول سے نوازیں اور ملت کو موجودہ حالات میں جو مسائل و مشکلات درپیش
ہیں انہیں حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے بالغ نظر مفکر اور ولی کامل کے
ارشادات و ملفوظات کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائیں *

اس دعا زمین و آسمان جہاں آمین باد

دعا گو و دعا جو

احقر عبد اللہ انور

لاہور۔ ۲۸ اپریل ۱۹۶۲ء

کر وڑوں رحمتیں ہوں شیخ لاہوری کی تربیت پر
 کوئی صدیوں میں ایسا صاحبِ ارشاد ہوتا ہے
 (مضطر گجراتی)

ولادت — ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۰۲ھ — جمعۃ المبارک قصبہ حلال ضلع گوجرانوالہ
 وفات — ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ — جمعۃ المبارک شہر لاہور

باب اول*


17. 4. 65

خطبات جمعہ کے اقتباسات

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب قدس سرہ العزیز نے
منبر رسول پر کھڑے ہو کر نصف صدی تک آوازہ حق بلند کیا۔ قرآن و حدیث کی
روشنی میں عوام اور حکام کی رہنمائی فرمائی، عشقِ خدا اور محبتِ رسول میں ڈوبے
ہوئے خطبات سے امتِ مسلمہ کے قلوب کو گرمایا اور اس طرح قطبِ الاشراف
کے فرائض سرانجام دئے۔ یہ باب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہی خطبات کی
صدائے بازگشت ہے *

صدرالکتاب

3. 3. 3



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

اللہ تعالیٰ کبھنے والا ہے۔ کتاب اللہ مکتوب ہے اور بندے مکتوب الیہ ہیں۔ ہر شخص اس چیز کو آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی دوست یا عزیز یا بزرگ یا حاکم کا مکتوب آئے اور آدمی خود اس کی تحریر کو نہ سمجھ سکے تو اس زبان کے جاننے والے کے پاس جاتا ہے اُن سے مطلب سمجھ کر جو فرمائش یا حکم ہو اس کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور یہی اس مکتوب کی عزت ہے اور اگر اس مکتوب کو لے کر اتنا سن لے کہ یہ فلاں استاد یا فلاں بزرگ کا خط ہے۔ سر آنکھوں پر رکھے چھاتی سے لگاٹھے پیار اور محبت سے چوتی ہے اور ریشمی غلاف میں لپیٹ کر کسی عزت کی جگہ پر رکھ دے اور تحریر شدہ حکم کی تعمیل نہ کرے تو کیا وہ بزرگ یا استاد یا حاکم اُس کے اس فعل پر خوش ہو سکتا ہے ؟ اور کیا وہ اس شخص کو بے وقوف اور نادان دوست خیال نہیں کرے گا ؟ بس اس مثال پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمانوں میں کتنے آدمی ایسے ہیں جو مکتوب اللہ تعالیٰ (قرآن مجید) کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں جو زبان سے تو عزت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کے باعث اس کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں ؟

✓ صیغے نہایت زور دار الفاظ میں یہ دعوائے کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہر مصیبت کا علاج قرآن حکیم میں موجود ہے بشرطیکہ اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ مثلاً اگر کسی قصبہ یا شہر یا سارے پنجاب کے مسلمان اپنی اقتصادی بد حالی کو دور کرنا چاہیں ان کی خواہش ہو کہ کوئی نام کا مسلمان بھی تنگ دست، فاقہ مست، بھوکا پیاسا اور ننگا نظر نہ آئے تو کسی عالم قرآن سے اس اقتصادی بد حالی کا نسخہ تیجویز کر کے اس پر عمل کر کے دیکھ لیں اور اگر میری خدمت کی ضرورت ہو تو بندہ وہ نسخہ عرض کرنے کے لئے ہر وقت حاضر ہے۔

●
 موجوں لاکہ مسلمانوں کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو عنقاء کی طرح خیال کرتے ہیں۔ کہ وہ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اب نہیں پائے جاتے کیونکہ جب ان کو اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے زندہ بندوں میں سے کسی ولی کو تلاش کریں اور اپنی مقصد پر آری کے لئے ان کی طرف رجوع کریں۔ یہ ان اولیاء اللہ کی قبروں سے رجوع کرتے ہیں۔ جو آج سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں انہی کی قبروں پر جاتے ہیں۔ اپنی حاجت روائی کے لئے انہی سے استدعا کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری ہونے پر انہی کے حضور میں ہدیہ پیش کرنے کے وعدہ کرتے ہیں۔

ایک ذاکر اور غافل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عطر کی شیشی کو مکان میں کہیں رکھ دیا جائے تو وہ چھپی نہیں رہ سکتی اور ہر آنے والا اس کی مہک ہی سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں عطر موجود ہے خواہ وہ چھپا کر ہی کیوں نہ رکھا گیا ہو۔ مگر غافل گندگی کا ایک ٹوکرا ہے جسے کتنا ہی ڈھانپ کر کیوں نہ رکھا جائے مگر وہ اپنی عفونت دے بغیر نہیں رہ سکتا خواہ اسے کتنے ہی قیمتی اور بیش بہا غلافوں میں کیوں نہ لپیٹ کر رکھا جائے اگر انسان غافل ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ مہتمم اور دولت مند ہو جائے، کوٹھیوں اور باغوں میں زندگی بسر کرے۔ مگر وہ خدا تعالیٰ کے ماں آسودہ حال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ذکر الہی سے آسودہ نہ ہو۔



میں نے انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں بلکہ چاہتا ہوں کہ مسلمان نہ صرف دوسری قوموں کے دوش بدوش بی اے۔ ایم، اے کی ڈگریاں حاصل کریں بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ خدا کرے یہ دنیوی وجاہت میں ان سے بھی بڑھ جائیں مگر اس وقت مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ چونکہ انگریزی تعلیم سے صرف حصول ملازمت اور طلب دنیا مقصود ہے اور درس قرآن سے بظاہر کوئی دنیوی منفعت نظر نہیں آتی اس لئے ہم کثرت سے اپنے بچوں کو طلب دنیا کے لئے انگریزی سکولوں میں دھکیلنے جاتے ہیں اور تعلیم قرآن کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے ہیں اگر اعداد و شمار کی رُو سے دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ہر سال صرف پنجاب میں میٹرک پاس کرنے والوں کی تعداد میں پچیس ہزار

کے درمیان ہوتی ہے اور دینی تعلیم پانے والوں کی تعداد چند سو بھی زائد نہیں ہوتی۔ پھر یہ بیس پچیس ہزار انگریزی خواں جو طلب زر کے لئے اپنی عمریں اور جائیدادیں تباہ کر لیتے ہیں ملازمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ دین بھی چھوٹا اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ اگر یہ لوگ تعلیم انگریزی کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھ لیتے اور اپنے دین سے بھی آگاہ ہو جاتے تو کم از کم خسرو الدنیا والاخرہ تو نہ ہوتے مگر ہونا کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مسجد کی چھائی سکول جانے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا شکر بود ہو لے تو قرآن پڑھائیں گے۔ مگر جب اس نے پرائمری پاس کر لی۔ تو ٹڈل میں بھیج دیا۔ ٹڈل پاس ہوا تو میٹرک گیا۔ میٹرک سے نکلا تو ایف اے۔ بی اے۔ ایم اے کی تیاریاں ہونے لگیں بس پھر کیا ہے وہ بچہ خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر انگریزی تہذیب، انگریزی تمدن۔ انگریزی کلچر کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن سے واقف تو نہیں ہوتا مگر قرآن پر اعتراض کرنا جانتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے تو نا بلد ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز اور جنازہ سے بھی نا آشنا ہوتا ہے۔ مگر وہ اسلامی مسائل پر تنقید کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مجتہد سمجھتا ہے اور یہ اس کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کے والدین کا قصور ہے اور ایسے والدین پر وہ قیامت کے دن لعنت بھیجے گا۔

✓ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے ایسے ہی خوش ہیں جیسے تم بسا اوقات اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہو۔ دن بھر کے تھکے ماندے دفتروں سے اٹھ کر یاد و کانوں

سے فارغ ہو کر یا محنت مر۔ دوری کر کے جیب شام کو گھر جاتے ہو تو چھوٹا بچہ آیا
 آیا کچھ کرٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے تو بس اتنے ہی سے تم خوش ہو جاتے ہو۔
 طبیعت میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے تم اس سے پیار کرتے ہو۔ ہنستے ہو
 اور سب کچھ بھول جاتے ہو۔

اسی طرح تمہارے اس تھوڑے سے ذکر تھوڑی سی عبادت اور تھوڑی
 سی ناز سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خوش ہو جاتا ہے اپنی رحمت کے دروازے
 کھول دیتا ہے اور تمہیں آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ حالانکہ تم نے بڑا
 کام نہیں کیا۔ صرف چند منٹ تخلیہ میں اس کو یاد کیا اور اس کے حبیب
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق پر اس کو یاد کیا صرف زبانی حمد
 ثنا کی۔ اپنی غلطیوں کو تائبیوں، مغرور گزشتوں کا اعتراف کیا اور اس سے
 مزید عمل کی توفیق مانگی۔ تو وہ تم پر راضی ہو گیا اور تمہاری اس مانائی اور
 عقل مندی کا بہتر سے بہتر صلہ دینے پر تیار ہو گیا۔



یاد رکھئے یہ مسجدیں حقیقت میں دارالشفاء ہیں۔ اور ہم سب روحانی
 مریض ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں آکر شفاء حاصل کریں۔ گناہوں سے تائب
 ہوں۔ اپنی مغرور گزشتوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لئے سچے دل سے
 عمل کی تیاری کریں۔ یہ قرآن و حدیث کا وعظ و نذکر ایسے ہی ہیں جیسے برسات
 کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو طرح طرح کے پھول کھل جاتے ہیں۔ سبزہ
 ہر ابھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں، دماغوں، زبانوں، کانوں اور عضو عضو

میں جو گناہوں کی سیما ہی جھی ہوئی ہے اگر اس ابر رحمت سے دھل جائے
تو یقیناً ہمارا ایمان تروتازہ ہو جائے۔

حایض کے نام پر بلا نے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ علمائے کرام اور صوفیائے
عظام اور پھر ان دو قسموں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ خدا پرست علمائے
کرام اور گمراہ کن علماء۔ خدا پرست صوفیائے عظام اور طالبِ زرفقرا مسلمانوں
کا فرض ہے کہ کھرے اور کھوٹے علماء اور سچے اور جھوٹے فقیروں میں تمیز
کریں سچے علمائے کرام اور سچے صوفیائے عظام کا دامنگیر اپنے آپ کو بنا نہیں
اگر تمیز کئے بغیر کسی کا دامن پکڑ لیا تو ممکن ہے کہ وہ گمراہ کن اور فریبی فقیر خود
بھی جہنم میں جائے اور انہیں بھی ساتھ لے جائے۔

اجکلے عموماً ایسے ہی گمراہ کن علماء اور آئمہ مساجد کا وجود آپ کو نظر
آئے گا اگرچہ ان میں صحیح النیال، صحیح العقیدہ باعمل ہستیوں سے بھی انکار
نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فقیری کے بھیس میں بھی آپ کو کئی انسان صورت
شیطان سیرت نظر آئیں گے۔ جو فقیری کے دام میں پھنسا کر عام لوگوں کو شیطان
کی جماعت میں داخل کرائیں گے۔ اتباعِ شریعت سے خود بے بہرہ ہوتے ہیں اور
مریدوں میں بھی یہی زہر بھرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس رہ کر دیکھیں گے تو معلوم ہو
گا کہ انہیں خلافِ شرع کاموں میں بڑا شوق ہو گا اور شریعت کی توہین بھی ہو
جائے تو انہیں کوئی پروا نہیں ہوتی۔ مثلاً طبلہ اور سازنگی کے دلدادہ تو ابلی

کے عاشقِ حقیقہ کے بڑے مشتاق، بھیک مانگ کر بھی اپنے بزرگوں کے بھنڈار سے
 کرنے کو نہایت ہی اشد ضروری خیال کرنے والے۔ ان کے تکیہ کے قریب
 والی مسجد بھی غیر آباد۔ مگر تکیہ بڑا پُر رونق اور آباد۔ مسجد میں کربلا کا نظارہ اور
 تکیہ میں ٹھنڈے گھڑے موجود۔ مسجد میں چٹائی نڈارد اور اگر سے تو ٹوٹی
 پھوٹی اور تکیہ میں عمدہ اور صاف صافیں بچھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے
 گمراہ کن شیطان کے ایجنٹ صوفیوں سے مسلمانوں کو بچائے اور اتباع
 شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ❖

ایک غیر مسلم کی نظر فقط اسی دنیا تک محدود رہتی ہے۔ بلند مکانوں۔
 عالیشان کوٹھیوں اور محلوں میں بسر کرنے والے۔ موٹروں میں سفر کرنے
 والے۔ حسین بیویوں سے نکاح کرتے، بچے جننے اور ان کی ضروریات بہم
 پہنچانے۔ لذیذ غذا میں کھانے۔ قیمتی لباس پہننے۔ دنیوی تمسلیبی ڈگریاں
 حاصل کرنے۔ دولت کمانے اور جمع کرنے۔ خان صاحبی۔ خان بہادری۔
 ممبری۔ میونسپل کمشنری اور وزارت کے اقباب و عہدے پانے غرضیکہ
 اسی طرح کی تمام نفسانی خواہشات کی تکمیل میں شب و روز غیر مسلم غرق رہتا
 ہے۔ حتیٰ کہ پیغامِ اجل آجاتا ہے۔

بخلاف اس کے ایک مسلمان کی زندگی میں سعی منقسم ہوتی ہے اسے وہ
 سعی کرنے کا حکم ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی مدد حاصل ہوں:

جس طرح اس دنیا میں چین سے زندگی بسر کرنے، عزت و انعام سے رہنے
 سمیٹنے کے لئے ایک سرمایہ کی ضرورت ہے اور وہ سرمایہ سونا اور چاندی ہے
 جس کے پاس یہ ہو خواہ وہ شور ہو یا چار۔ چینی ہو یا جاپانی بت پرست ہو یا
 تثلیث پرست۔ وہ ڈگریاں مول لے سکتا ہے۔ سر کا خطاب پاسکتا ہے
 میونسپل کمشنری کے ڈنگل میں جمیت سکتا ہے۔ وزیر اعظم منتخب کیا جاسکتا ہے
 سب اسے سلا میں کرتے ہیں۔ ٹی پلاٹے ہیں۔ تحفے تحائف کھینچتے ہیں۔ مگر جس کے
 پاس دولت نہیں خواہ سادات کرام سے ہو۔ یا قریش خاندان سے ہو۔ قابلیت
 میں بکتا ہو۔ مغلیہ خاندان کا جانشین ہی کیوں نہ ہو اسے آج رہنے کو جھونپڑی
 تن ڈھکنے کو چا اور۔ اور منہ مانگے بھیک بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح آخرت میں چین
 عزت راحت پانے کا بھی سرمایہ ہے۔ وہاں اس دنیا کا سرمایہ ہرگز کام نہیں
 آئے گا۔

✓ جنتی جنمیںوں سے سوال کریں گے کہ ابے بہنیمو! تم دوزخ میں کیوں آئے
 وہ حسرت بھرا جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اپنی کمائی میں
 سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے مگر بھوکے کو کبھی نہ کھلاتے۔ کسی
 مسکین کی خبر گیری نہ کرتے۔ اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والوں کا ساتھ دیتے
 نماز کو اٹھک بیٹھک کہتے۔ روزے کو فاتہ۔ دار طھی کو سائیں بورڈ۔ علماء کو طوطے
 کا خطاب دیتے۔ نمازوں کو بے فائدہ سمجھتے تھے۔ یہی طور رہا۔ یہاں تک کہ
 پیغام اجل نے آدیا یا۔

قرآن مسلمان کی جان ہے اس پر مسلمان کا ایمان ہے۔ فقط قرآن ہی ذریعہ حفاظتِ ایمان ہے اور یہی باعثِ داخلہ جنت ہے۔ اس کا نام ہی مسلمان کے لئے باعثِ رحمتِ جان ہے۔

راقم الحرف فلع گوچرانوالہ کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میرے گاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر دوسرے گاؤں میں سکول تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم چونکہ ذی علم تھے۔ انہوں نے مجھے سکول میں داخل کیا اور تعلیم دلائی۔ سارے گاؤں میں سوائے میرے اور کوئی سکول نہیں جاتا تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم کی بیدار مغزی اور نال اندیشی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دارالسلطنت لاہور میں اللہ تعالیٰ کا مجھ ایسے گنہگار سے محض اپنے فضل و کرم سے اسلام کی خدمت لے رہا ہے۔
والحمد لله على ذلك

اے دولت کے نشہ میں مغمور ہونے والو انسانو! اے زمین کے بڑے سے بڑے رقبہ پر قبضہ جانے والے زمیندارو! اے بڑے بڑے سیٹھ کہلانے والے تاجرو! اے بڑے سے بڑے عہدہ دارو اور اے بڑی بڑی تنخواہیں پانے والے ملازمو! تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ باوجودیکہ ہم عبادت گزار نہیں بلکہ غفلت شعار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہمارا شیوہ ہے۔ باوجود اس کے ہم بڑے خوش حال ہیں۔ لذیذ کھانے کھاتے ہیں قیمتی لباس پہنتے ہیں سرفراک کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہتے ہیں۔ برق سفار موٹروں پر سواری کرتے ہیں۔

پرنی جمال بیگمات سے زندگی کے دن عیش و عشرت سے بسر کرتے ہیں، ہر ذمہ
مولویوں کا یہ کہنا کہ جو عبادت گزار نہیں ہے وہ بد نصیب اور نامراد ہے۔ یہ
فقہہ نم مولویوں کی خام خیالی ہے اور تمہاری ان نصائح کی واقعات سے
تردید کرتے ہیں۔

یر اور ان ملکیت! مولویوں کے نصائح صحیح ہیں اور تمہارا خیال بالکل غلط
بلکہ حجاب بر آب یعنی پانی پر بلیے کی طرح ہے یاد رکھو اور گوش ہوش سے
سنو! خداوند کریم کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا قانون اٹل ہے وہ
اپنے نافرمانوں کو چند دن مہلت دیا کرتا ہے اس کے بعد گرفت کرتا ہے۔ اس کی گرفت
پھر ایسی شدید اور سخت ہوتی ہے کہ اس کے عذاب کے پنجہ سے نہ فریب بچ
سکتا ہے اور نہ امیر۔ نہ گدا بچ سکتا ہے اور نہ شاہ۔

مسلمانوں میں دو قسم کے آدمی ہیں ایک وہ جو خلاف شرع رسمیں نہیں کرتے
جن کی تعداد کم ہے۔ دوسرے وہ جو خلاف شرع رسمیں دل کھول کر کرتے ہیں
جن کی تعداد زیادہ ہے اور وہ دراصل کفار کی رسمیں ہیں۔ جو بے دین لوگوں
نے اپنائی ہیں مثلاً شادی کے موقع پر تیل کی رسم۔ مہندی کی رسم۔ دوٹھا کا گھوڑی
پر چڑھ کر سسرال کے گھر آنا۔ سر پر سپہرا باندھنا۔ سر بالاکا دوٹھا کے پیچھے
گھوڑی پر بٹھینا۔ دوٹھا کے اور سر بالاکے سر پر ایک ہی سرخ گوٹے والا دوٹھا
ڈالنا۔ برات کے ساتھ باجہ کا ہونا۔ اب ایک شخص ان خلاف شرع رسموں کو
نہیں کرتا اسے بے دین طبقہ "وہابی" کے نام سے پکارتا ہے اس کے بیٹوں

کو ”دبا بڑے“ کے نام سے پکارتا ہے۔ اس کی بیویوں اور اس کی بیٹیوں کو ”دہانیاں“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس حق پرست قبیح شریعت کے سارے گھرانے کو یہ بے دین طبقہ ہر مجلس میں خواہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو ان کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ بچارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خیال سے ان کے طعنوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور اس ذلت آمیز سلوک پر ان کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ بالآخر نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ حق پرست قبیح شریعت رضائے الہی حاصل کرنے کے لئے ساری عمر کی ذلت برداشت کرنے والے جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو بہشت کا باغ بنا دے گا۔

عام طور پر انسان کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ دو پاؤں۔ دو ہاتھ۔ دو آنکھیں۔ بتیس دانت۔ دو کان۔ ایک زبان اور قد سیدھا ہونے کا نام انسان ہے حالانکہ یہ چیز حقیقتاً انسان نہیں ہے البتہ انسان کا لفاظ ضرور ہے جس طرح کہ خط لفاظ کو کہا جاتا ہے حالانکہ لفاظ خط نہیں ہوتا بلکہ لفاظ کے اندر خط ملفوف ہوتا ہے اگر لفاظ کے اندر خط نہ ہو تو لفاظ بے کار اور فضول ہے اسی طرح اگر اس لفاظ کے اندر انسانیت پائی جائے تو پھر یہ لفاظ قابل قدر ہے۔ اور اگر اندر انسانیت کا جوہر نہیں ہے تو پھر یہ لفاظ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے اور وہ شکل انسانی جس میں انسانیت کا جوہر نہ ہو اس کی ردی کی ٹوکری دوزخ ہے۔

یاد رکھو اصلی اور کھرے اسلام کو کیونزوم سے کوئی خطرہ نہیں ہے
 ہاں ہمارا پنجابی اسلام۔ بناوٹی اسلام اور کھوٹا اسلام کیونزوم کے مقابلے
 کی تاب ہرگز نہیں لاسکتا۔ میرا دعویٰ ہے اور میں دلائل سے ثابت کر سکتا
 ہوں کہ کیونزوم تو اسلام کا ناشتہ بھی نہیں ہے ۛ



ہدیوں سے معزز بھائیو۔ شادی اور غمی کے موقعوں پر جو رسمیں ہم کرتے ہیں
 اور جن کی پابندی ضروری خیال کرتے ہیں اور جن کے ترک کرنے سے مسلمان
 ناراض ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً ۹ حصہ کفار کی رسمیں ہیں جنہیں ہم نے
 اپنایا ہوا ہے اور بقول شخصے ہر کفر کہ کہہ نہ شد مسلمان مشدان رسموں کو
 اسلام سمجھتے ہیں حالانکہ دراصل وہ رسمیں کفار سے منتقل ہو کر ہم میں آئی ہوئی ہیں
 مسلمانوں میں کافروں کی رسموں کے رواج پانے کا سبب سے بڑا سبب یہ ہے
 کہ ہمارے دادا پڑا دادا جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے رسمی طور پر وہ کسی عالم
 دین کے ہاں جا کر کفر سے تائب تو ہو گئے اور اسلام کے نام لپواؤں میں اپنے
 آپ کو شامل کر لیا مگر کسی عالم دین کے ہاں زانوئے اوبتہ کر کے دین
 کی تعلیم نہیں پائی تھی اس جہالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کبھی گھر میں شادی
 یا غمی کا موقعہ آیا تو تمام وہ رسمیں جو کفر کی حالت میں کرتے تھے وہ ساری
 کی ساری کر دکھائیں اور سلسل یہ رسمیں ہر موقعہ پر ادا کی جاتی ہیں۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسل نے یہ خیال کیا کہ یہ اس اسلام کی رسمیں ہیں جو کہ
 مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے آیا ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ رسالت عطا ہوا تھا۔ اب جو شخص ان رسموں کو ترک کرے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسلام کی رسموں کو ترک کیا اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اس محمد اللہ ہم عملی طور پر کفر کی رسموں سے باز آگئے آج تک ہم کفر کی رسموں کو زندہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاوی نے ہمیں صحیح راستہ سمجھایا بجائے شکر کرنے کے الٹا ہادی سے لڑتے ہیں کہ تم نے ہم سے اسلام کو ترک کر دیا۔ مثلاً شادی کے موقع پر ڈھولکی بجانا، تیل، مہندی، سہرا، گھوڑی، یا جا وغیرہ اگر ان رسموں کو ترک کر لیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص دہابی ہو گیا ہے یعنی مرتد ہو گیا ہے اور پھر وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ کافروں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ میل جول رکھا جاسکتا ہے مگر دہابی کے ساتھ سلام و کلام کرنا بھی حرام خیال کیا جاتا ہے اگر دہابی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا گناہ ہے حالانکہ کفار کی رسموں کے ادا کرنے میں روپیہ خرچ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ ان سب گناہوں کے باوجود مسلمان جہالت کے باعث یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اسلام ہے :

مسلمان عموماً لڑکیوں کو جو بہیز دیتے ہیں اس کا خوب دکھلاوا کرتے ہیں۔ مزدوروں کے سروں پر ٹوکریوں میں نئے قلعے شدہ برتن تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے جاتے ہیں تاکہ مزدوروں کی ایک لمبی لائن ہو جائے یہاں تک کہ جو پلنگ دیا جاتا ہے اس پر ایک بستر بچھا ہوا ہوتا ہے سر کی طرف تکیہ

اور پاؤں کی طرف ایک سحاف رکھا جاتا ہے۔ اس طریق کار کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی
 والوں کا کافی رویہ بھی داماد لے گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے۔ گویا
 کہ دین اور دنیا دونوں برباد ہو گئے ۛ

صیغے یہ عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ طریقہ تعلیم میں بعض نقائص
 ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اعلیٰ اخلاق پیدا ہونے کی بجائے اخلاق کے
 برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ مثلاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالجوں میں اکٹھا
 تعلیم پانا۔ کنواری لڑکیوں کا ہارنگھا رکھنے کے عمر سے عمر لباس پہن کر
 نوجوانوں کی کلاسوں میں بیٹھنا کیا ان طریقوں سے لڑکے اور لڑکیوں کے
 اخلاق خراب ہونے کا سخت خطرہ نہیں ہے ۛ

سینما کی برکت سے نوجوان طبقہ کا اخلاق تباہ اور برباد ہو رہا ہے
 اس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں (عشق اور عاشقی کے نئے نئے طریقے
 سکھائے جاتے ہیں جو فلم سب سے زیادہ بے حیائی اور جذبات کو ابھارنے والی
 ہوں زیادہ مقبول ہوتی ہے ۛ

یو اے ایف اسلام اور معزز خواتین! اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا
 مسلمان نوجوان نیک نظر آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے بندے بھوکے نہ رہنے
 پائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط اور ناقابل تسخیر پاکستان بن جائے

اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم غیرت مند قوم کہلائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری نسلیں فخر کے طور پر ہمارا نام لینے پائیں تو ان تمام مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے قریب تر راستہ یہ ہے کہ آپ حتی الامکان غیر ملکی مصنوعات پر اپنے ملک کی مصنوعات کو ترجیح دیں اگرچہ ملکی مصنوعات زیبائش اور چمک دمک میں بمقابلہ غیر ملکی کے گھٹیل ہوں مگر آپ قومی غیرت کے لحاظ سے ملکی اشیا کو ترجیح دیں اس طریق سے ہمارا ملک بہت جلد ہی بام عروج پر پہنچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر مذہبی تعلیم کے ذریعہ سے خدائے تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر بھی دامن گیر ہو جائے تو صحیح معنی میں ظاہراً اور باطناً پاکستان پاکستان بن جائے گا۔

برادر ارضی اسلام! جن لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی باگ ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ صوفیائے کرام کا بھی ہے اور یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے اس گروہ میں جو کھرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں مقبول، محبوب، مغفور اور مرحوم ہوتے ہیں ان کی دانگ گیری باعث برکت۔ ان کا اتباع موجب نجات اور ان کی صحبت کسیر کا حکم رکھتی ہے ان کی تربیت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے ان بزرگان دین کی تربیت سے ہی انسان روحانی مہلک بیماریوں (مثلاً حسد، کبر، عجب وغیرہ) سے شفا پاتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر ان اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو اور ان سے اپنی تربیت نہ کرائے تو اغلب یہی ہے کہ انسان روحانی

ہلکے بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گا۔ اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ جل شانہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں پیدا کی ہیں

اس اعلان کی بنا پر صوفیائے کرام کی بھی دو قسمیں ہیں ایک کھرے جن کا ذکر خیر میں ابھی کر چکا ہوں۔ دوسرے کھوٹے جو حقیقت میں اس گروہ میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتے مگر صوفیائے کرام کے روپ میں یہ بہ روپے آتے ہیں اور عوام الناس کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی ان کے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ جس کا پیر کوئی نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے اس لئے وہ کسی نہ کسی شخص کو اپنا پیر بنا نا ضروری خیال کرتے ہیں اگرچہ وہ پیر شیطان کا نائب ہی کیوں نہ ہو اس لئے ہمارے بزرگوں نے ہمیں وصیت فرمائی ہے

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

۱۲۶۱۱ پس بہر دستے نیاید داد دست

کھرے پیر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے عقائد قرآن مجید کے مطابق ہوں اور مسلمی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبح ہو اگر عقائد میں قرآن مجید کا مخالف ہو مثلاً اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا مشدہ وقت ہر آن میرے ساتھ ساتھ موجود اور حاضر رہتا ہے اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو مثلاً نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ ہم تو مکہ معظمہ میں نماز پڑھ آتے ہیں یا یہ کہے کہ ملاں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم

تو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں خواہ حقہ پی رہے ہوں۔ سید المرسلین
خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین تو مغفور و مرحوم ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں اور
یہ کھوٹے صوفی بے نماز رہ کر جاہل مریدوں کو یہ دھوکا دیں کہ ہم نماز مکہ معظمہ جا کر
پڑھتے ہیں اور پچارے جاہل مسلمان ان کی ظاہری صورت فقیری کی دیکھ کر اعتبار
کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کھوٹے اور فریب کار صوفیوں سے مسلمانوں کو بچائے
آمین یا اللہ العالین ۛ



برادرانہ اسلام بہت سے نوجوانوں کا یہ خیال سنا جاتا ہے کہ ساڑھے
تیرہ سو سال والا کہنہ اسلام ہمارے لئے مفید نہیں ہو سکتا وہ اسلام
غیر مہذب اور غیر متمدن ریگستان عرب کے باشندوں کے لئے مفید ہوا
تھا انہیں قعر ندلت سے اٹھا کر اس نے بام عروج پر پہنچا دیا تھا یہ ٹھیک
ہے کہ ان کے منتشر شیرازہ کو ایک مرکز پر جمع کر دیا تھا ان غیر منظم لوگوں کو اسلام
نے منظم کر دیا تھا ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو گلے ملا دیا تھا ان کی
عداوت متبذل بہ محبت ہو گئی تھی مگر آج کل کے متمدن اور مہذب لوگوں
کے لئے وہ اسلام چراغ راہ نہیں بن سکتا وغیرہ وغیرہ۔

میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خیال کا نوجوان غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ
دراصل اسلام کو سمجھا ہی نہیں اگر وہ اسلام کو سمجھتا تو اس قسم کے الفاظ اس
کی زبان سے ہرگز نہ نکلتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز پرانی ہو جائے اور کارآمد نہ رہے

تو اس کی بجائے نئی چیز خریدی جائے لیکن اگر وہ روز اول جیسی کارآمد اور مفید ہو
 تو کیا کوئی عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ دیرینہ ہے اس لئے ضرور بدل دینا
 چاہیے مثلاً سوچ، چاند، ستارے جو ہزار ہا برس سے اسی آب و تاب سے
 دین اور رات میں چمک رہے ہیں دیرینہ اور کہتے ہوئے کے باوجود خوب روشنی
 میں کوئی فرق نہیں آیا تو کیا کوئی عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ دیرینہ ہے اس
 لئے ضرور بدل دینا چاہیے۔ بعینہ اسی طرح اسلام سائے تیرہ سو سال سے
 دنیا میں اپنی صداقت، قبولیت اور تمام مذاہب پر فوقیت کا اعلان کرتا آ
 رہا ہے۔

اے نوجوانوں کو میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہیں
 اسلام کے احکام کے ترجمان یعنی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں تو میں ان کی خدمت
 کے لئے حاضر ہوں۔ بقیہ شرائط استفادہ و امانہ بعد میں طے ہو جائیں گے۔

ہمارے پنجاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغتوں میں یہ شعر پڑھے
 جاتے ہیں۔

درو و سلام است بے انتہا
 کہ ظاہر بشر بود باطن خدا
 ۵ شریعت کا ڈبے نہیں صا کہدوں
 خدا خود رسول خدا بن کے آیا
 ۵ عرش پہ جو تھا مستوی ہو کر
 مدینہ میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر
 برادران اسلام، غور کرو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر

اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا تھا تو کیا ہمارے ان عقیدوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے کیا ہم پر ذہنی فرد جرم نہیں لگے گا جو عیسائیوں پر لگا تھا۔ یاد رکھو سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعمت اور تعریف سے کس ایماندار کو انکار ہو سکتا ہے البتہ تعریف وہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پسند آئے۔

یہ اہل سنت اسلام! میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر بزرگان دین ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہمیں ایمان کہاں سے نصیب ہوتا اور اسلام کی نعمت کہاں سے ملتی انہیں اللہ والوں کا فیض ہے کہ آج ہم میں ایمان کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اور اسلام کے نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں اور اولیائے کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے ہمیں دین سے روشناس کرایا اللہ تعالیٰ کا دروازہ دکھایا خدا کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھایا بزرگان دین نے ہمیں یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر ہماری قبروں پر آکر سربسجود ہو جاؤ اور اپنی مرادیں سجاٹے اللہ تعالیٰ کے ہم سے مانگا کرو۔

مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہر عالم اور ہر سر کے پیچھے نہ لگنے پائیں بلکہ فقط اس عالم کے سامنے زانو ٹٹے اور تہ کریں جو ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دے اور فقط اس پیر کو اپنا مقتدا بنائیں جو کتاب و سنت کا پورا پابند ہو اور ہمیں اس کی صحبت میں رہ کر شریعت کی پابندی کی توفیق ہو اور اگر ہم شریعت

کی خلاف ورزی کریں تو وہ فوراً ہم پر گرفت کرے ورنہ جو صوفی شریعت کے مخالف ہو وہ خواہ آسمان پر لڑتا ہو آٹے لاکھوں مرید پیچھے لگا کر لائے قبائے عالم کہلائے مگر ہمیں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہے اور اس کی بیعت کرنا حرام ہے اگر ہو جائے تو توڑنا فرض عین ہے۔

مکیو بھائیو اب مسلمان کا فرض صرف کمانا کھانا کوٹھی میں رہنا بچے جتنا ہی نہیں ہے یہ تو گنگا رام اور ہری سنگھ بھی کرتا ہے پھر ایک مسلمان میں فرق کیا رہا ہمارا فرض قرآن اور نبوت کی حفاظت کرنا ہے اس لئے میں سخت غصہ میں فتویٰ دیتا ہوں جن لوگوں نے فقط اردو میں قرآن بنایا، وہ اس کو جلا دیں کیونکہ اس سے تورات اور انجیل کی طرح تحریف کا دروازہ کھلتا ہے یاد رکھئے اردو قرآن کا خریدنا بیچنا اور پڑھنا گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح تو تورات اور انجیل محرف ہوئی ہیں۔

یاد رکھو اے چندریگر یہ پاکستان مسلمانوں کا ہے فقط تیرا نہیں کیا تم ہم کو مسجدوں میں کلمہ حق بلند نہیں کرنے دو گے میں ناظم الدین کو کہتا ہوں کہ میں اپنے خدا اور رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں رپورٹ سے کہتا ہوں چندریگر اور ناظم الدین کو کہہ دو کہ مرزا تیرے باپ کو کافر اور تیری ماں کو کتیا کہتا ہے تم کو غیرت نہیں آتی؟

اے چند ریگر، اے دولتانہ تم کو مرنا نہیں ہے؛ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟

مذہب سے ایسے جج دے سکتا ہوں جو ایماندار ہوں گے۔ رشوت کی پائی نہیں لیں گے۔ یاد رکھئے رسول اللہ کی امت خالی نہیں ہے ساری دنیا کے خزانے ڈھیر کر دیں گے تو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھیں گے۔

اے ناظم الدین میں تجھ سے بڑا ہوں۔ تیرا خیر خواہ ہوں۔ تو بھی انسان میں بھی انسان، تو بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی، تو بھی حضور کا امتی میں بھی امتی۔ تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، تو افسر ہے میں محکوم ہوں۔ اے ناظم الدین مگر میں فرض ادا کر رہا ہوں تو نہیں کر رہا۔ اگر تو نے اسلام کے لئے کچھ نہ کیا، اگر تو نے اسلامی نظام جاری نہ کیا، اگر ملک کو لادینی سے پاک نہ کیا، اگر تو نے قوم کی وفاداری نہ کی اور دو راققتدار میں خدا کو بھول گیا تو ذمہ داری سے منبر رسول پر کہتا ہوں، با وضو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ تیری کوٹھی پر لعنت تیری کار پر لعنت اللعنة البعد من الرحمة اور اگر اسلامی نظام جاری کیا اور قرآن کی، دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کی تو تیرے وجود پر تیرے بنگلے پر رحمت الرحمة موصول الی الجنة

ایک رات نماز مغرب کے بعد حکومت پاکستان کے ایک افسر میرے پاس
تشریف لائے اور فرمایا کہ میں علیحدگی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں مسجد
سے باہر ان کے ساتھ چلا گیا اور سڑک کے کنارے پریم دونوں کھڑے ہو گئے
رات چونکہ اندھیری تھی اس لئے پہچانے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے فرمایا
کہ گزشتہ سال میں حج پر گیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ
مبارک پر حاضر ہوا تو میں نے حضور اقدس کے روبرو عہد کیا کہ آئندہ دارطہی
نہیں منڈاؤں گا۔ چنانچہ میں نے واپس آکر دارطہی کبھی نہیں منڈائی اور ان
کی عمر کا میں نے اندازہ لگایا کہ ۲۵ اور پچاس سال کے درمیان ہوگی کیونکہ
دارطہی آدمی سے زیادہ سفید نظر آتی تھی اور میری بیوی مجھے مجبور کرتی
ہے اور کہتی ہے یادارطہی منڈاؤ یا مجھے طلاق دے دو۔ اب میں کیا کروں
اور ساتھ ہی مجھے یہ بتلایا کہ میری بیوی فلاں شخص کی لڑکی ہے۔ جب
خاوند کی عمر ۲۵ اور ۵۰ سال کے درمیان ہے تو بیوی کی عمر بھی اس کے
قریب قریب ہوگی اس عورت کے باپ کو میں جانتا تھا کہ وہ ہندوؤں کی طرح
روپے کا سودی کاروبار کرتے تھے میں سمجھ گیا کہ بڑھاپے میں بھی اس قسم کے
خبیث مطالبے سے نہ شرمانا دراصل اس حرام کے مال کا اثر ہے جو اس
کے رگ و ریشہ میں آیا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بہنو اولاد کو حرام مال کھلا
کر آپ چاہیں کہ اولاد تشریف نیک اور خدا ترس اور خدا پرست ہو۔
اس خیال است و محال است و جنوں۔ یاد رکھئے جنہیں رشوت وغیرہ کے حرام
کے مال سے تربیت کرتے ہو وہ بڑے ہونے کے بعد نہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے

بندے ہوں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوں گے اور نہ
تمہارے بہرہ دار اور خیر خواہ ہوں گے۔

اُمّے دولتانہ میں تیری دس کروڑ وزارتوں کے مقابلے میں ٹوٹے ہوئے
تنکوں پر مسز بسجود ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہاری قبر کو
جنت کا باغ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے سرکاری افسر تم کو ریاکاری سے مسلم
کرتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں۔ صرف محمد کے دروازے کے غلام سچے
خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ نبوت محمدی کا نور تب چمکے گا جب مرزائی نبوت کا نور
بجھا دیا جائے گا۔

آج عطاء اللہ شاہ موجی دروازہ کے باہر اشتعال انگیز تقریر کر رہے
تو حکومت کے ہوش ٹھکانے آجائیں۔ سارے ہندو پاکستان میں اس جیسا
کوئی سحر بیان نہیں۔ یہ دولتانہ۔ چندریگر اور شتراس کے سامنے کیا چیز ہیں تم
کہتے ہو کہ احقراری اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے کوئی
اشتعال انگیز تقریر نہیں کی۔ بخاری کو صرف ایک رات دس بجے سے صبح
چار بجے تک چنیوٹ میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کی اجازت دو انشاء اللہ
اگلے روز رتبہ نہیں ہوگا۔

صیغے ادب کرتا ہوں اولیاء کرام کا، علماء و عظام کا۔ دینداروں اور اللہ کے

نیک بندوں کا۔ میں بے دین حکام کا کس وجہ سے ادب کروں؟ ان کا ادب یہ ہے کہ ان کو سیدھا راستہ سمجھاؤں تاکہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے کہ اللہ کا کوئی بندہ تم کو ڈرانے نہیں آیا تھا، تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ سنا ما جاءنا من نذیر۔ یاد رکھو اے بے دین حکام، ہم تم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور بار بار سمجھاتے ہیں یہ تم پر بیماری شفقت ہے۔ مہربانی ہے۔ احسان ہے تمہیں سنا چاہیے کہ ہم منبرِ محمدی پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کیا غلط کہتے ہیں یا ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ ہمارا احسان ہے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں تم شریعت کو زندہ کرو یہ ہم پر احسان ہوگا۔ اگر اسی طرح پیغامِ الہی سنانے والوں کی توہین و تذلیل کرتے رہے تو یاد رکھو۔ میدانِ محشر آنے والا ہے۔ عاقبت کی خیر نہیں ہوگی۔ ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں ہم تم کو جہنم کی آگ سمجھانا چاہتے ہیں۔

ہمیں مرکزی حکومت سے کہتا ہوں یہ عہد کوئی چیز نہیں خدا سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ آج کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے تو قبر میں اگر پوچھا گیا کہ ختم نبوت کے لئے کیا کیا تھا؟ تو کیا جواب دو گے وہاں تو سرِ ظفر اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی وہاں مرزائیوں کی حمایت کام نہیں آئے گی۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کو سمجھ لیں چاہئے کہ اگر مرزائیوں کی حمایت کرو گے تو قبرِ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ میں اولیاءِ کرام کا نام بتاتا ہوں ان کو مسلمانوں اور مرزائیوں کے مشترک قبرستان دکھاؤ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مرزائی کی قبر کے متعلق یہی کہیں گے قبر ہذا البتہ حفرۃ من حفر النیوان (ہیں مقبور کی قبر و زخ کے گڑھوں)

میں سے گڑھا ہے)

یہ کیا سیاست، سیاست لئے پھرتے ہو کہاں گیا شاہ فاروق۔ اسی
امان اللہ کہاں گیا۔ خدا کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں؟

انگریزوں نے ہمارا تاج چھینا، تخت چھینا، ہمارا دین چھینا، ہمارا ایمان چھینا
اور ہم کو اسلام کا معترض بنا کر چھوڑ گیا؟

عورتوں کی عادت ہے کہ جہاں کوئی مرض قریب المرگ ہو وہاں ضرور پہنچتی ہیں
ان کو مردوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ
عورتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ مرد باہر ہوتے ہیں انہیں تب پتہ چلتا ہے جب تک
مر جاتا ہے۔ یہ اس معاملہ میں ایکسپٹ ہوتی ہیں کہ جی اس کی ناک کی گھوڑی ٹھہری
ہو گئی ہے۔ فلاں کے پاؤں متورم ہو گئے ہیں بس فلاں دو تین دن کا مہمان ہے
فلاں کا دو گھنٹہ میں کام ہو جائے گا اس لئے فوراً وہاں پہنچ کر رونا دھونا اور
بہن کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کہ ہائے یوں تھا۔ تو ایسا تھا تو ویسا تھا۔ یاد رکھو
یہ رونے دھونے مہنت کے حق میں سخت مضر ہیں؟

ہجرت سے تیس پینتیس برس سے یہاں پر درس قرآن دے رہا ہوں اور جمعہ
پڑھا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف
نہیں تقسیم سے قبل انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ ہمارا

مقابلہ ہندوؤں سے ہے اگر ایک ہندو ڈاکٹر آئے تو مقابلہ میں مسلمان ڈاکٹر
 آئے اگر ادھر سے ایل۔ ایل۔ بی آئے تو ادھر سے بھی ایل۔ ایل۔ بی آئے
 ادھر سے ایم۔ ایس۔ سی آئے تو ادھر سے بھی ایم۔ ایس۔ سی آئے۔ لیکن میرے
 بھائیوں اس دنیاوی تعلیم کو کافی وافی نہ سمجھو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں مردود
 نہیں۔ بلکہ مرحوم ہونا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ دین بھی سیکھو۔ تمہاری بڑی سے
 بڑی دنیاوی تعلیم ایل۔ ایل۔ ڈی اور ایل۔ ایم۔ ایس کی اللہ کے دربار میں
 کوئی پوچھ نہیں پڑے

میری عادت ہے کہ جس شہر میں جانا ہوتا ہے وہاں اولیاء کرام کے
 مزارات پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاتا ہوں۔ چنانچہ دہلی میں جمعیتہ علماء ہند
 کے اجلاس میں شرکت کے لئے حاضر ہوتا تو وہاں سے فارغ ہو کر سارے
 اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ پر فاتحہ پڑھنے جاتا۔ دہلی سے حضرت
 قطب الدین بختیار کاکی کا مزار گیارہ میل ہے جس ہمیشہ وہاں حاضر رہتا
 تھا۔ بمبئی میں ایک دفعہ جانا ہوا وہاں ایک دن میں ایک سو بیس میل محض
 اولیاء اللہ کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لئے موٹر پر پھرا۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فِي تَوَسُّلِ الْأَوْلِيَاءِ كَرَامِ خَوَاهِ حَيَاتِ هُوَ بِهَا
 وفات یافتہ کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ جو بزرگ
 بقید حیات ہیں ان کے سامنے اپنے مرشد کی طرح دوزانو بیٹھتا ہوں۔ جو
 وفات پا چکے ہیں ان کے مزار پر ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے اب اپنے مرشد

سیرے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عالم نے جو ان کا مرید تھا دعوت دی حضرت اس کے گاؤں میں تشریف لے گئے۔ جاتے ہی مسجد میں تشریف فرما ہوئے بہت سے لوگ زیارت کے لئے آکر جمع ہو گئے۔ حضرت کے حضور میں ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ یہ لڑکا کس کا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ مولوی صاحب (جو داعی تھے) کا بیٹا ہے۔ حضرت نے مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا مولوی صاحب چاندی کے زیورات تو لڑکوں کو پہنانے حرام ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ حضرت اس کی نانی نے مجبور کر کے پہناوئے ہیں۔ حضرت سخت ناراض ہوئے اور اپنی جماعت کو فرمایا چلو یہاں سے نکل چلیں۔ یہاں اللہ کا دین نہیں ہے۔ نانی کا دین ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مع اپنی جماعت کے تشریف لے گئے۔

بفضلہ تعالیٰ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اولیاء کرام کے جوتوں کی خاک میں سے وہ موتی ملتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ وہ نظر عطا فرمائے جس سے وہ موتی تلاش کئے جاسکیں وہ نظر تب عطا ہوتی ہے جب کسی عارف باللہ سے عقیدت ہو

ادب اور اطاعت کے ذریعہ سے تعلق قائم ہو جائے :

میں اولیاء کرام کی توہین نہیں کرتا اور جو اولیاء کرام کی توہین کرے اس پر خدا کی لعنت۔ لیکن جو ان کو خدا کے درجہ پر لائے اس پر بھی خدا کی لعنت میں کوئی یوپی سے یہاں نہیں آیا۔ میں پنجاب ضلع گوجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ میں پنجابیوں کے عقائد سے بخوبی واقف ہوں۔ ہمارے ہاں کے مرد تو مشرک ہیں لیکن عورتیں ان سے بھی زیادہ مشرک ہیں۔ جو قبروں پر گھی کے چراغ جلائے۔ پیر ہاؤسے پڑھانے اور منتیں ماننے میں مردوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ یاد رکھو خدا کے سوا کوئی ولی کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

ضلع جہلم کا ایک واقعہ ہے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ جب پولیس تفتیش کے لئے آئی تو قاتل اور ایک بے گناہ دونوں کو پکڑ کر لے گئی۔ قاتل جیل میں خدا سے دعا مانگتا۔ کہ اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے رہا کر دے۔ اور بے گناہ خدا سے کہتا کہ اے اللہ انصاف کر۔ چچ نے اصل قاتل کو رہا کر دیا اور بے گناہ کو پھانسی کی سزا دی۔ یہ واقعہ ایک ولی اللہ کو معلوم ہوا جب بے گناہ کی سزا کا اسے پتہ چلا تو اسے شہر ہوا۔ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ! تو سب کچھ جانتا ہے۔ سارے فیصلے تو تیرے ہاں سے ہو کر آتے ہیں تو نے یہ کیا کیا۔ اس پر بارگاہ

الہی سے اطلاع آئی کہ یہ بے گناہ کہتا تھا کہ اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر۔ ایک دفعہ اس نے ایک چیونٹی کو تنکے پر بٹھا کر تنکے کو بہتے پانی میں گارڈیا تھا جس سے وہ گر کر مر گئی۔ وہ بدلہ اس سے لینا تھا، اب جو اس نے کہا اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر سو میں نے انصاف کیا کہ چیونٹی کا قصاص اس سے لے لیا اور مجرم کہتا تھا کہ مجھے اپنے فضل سے بخش دے ہم نے اسے اپنے فضل سے بخش دیا۔

ہیری رائے یہ ہے کہ پاک تان میں نفاق اعتقادی کے منافق موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک بوسیدہ کتاب ہے جو بس تیر کا زیارت کے قابل ہے۔ لیکن عمل کے قابل نہیں رہی۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی حدود پر عمل ہوا تو ایک ایک گاؤں میں پانچ پانچ ٹنڈے نظر آئیں گے۔ اس لئے قرآن کے اس حصہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔

قاضی غلام حسین مرحوم ایڈووکیٹ جھنگ لکھپانہ کو لاہور کے ایک ہندو نے کہا تھا کہ ایک وقت آٹے کا جیب لاہور میں نہ گھبو خالص ملے گا۔

نہ پو۔

صدیے تو کہا کرتا ہوں اسے بد قسمت دنیا دار باپ اتوں نے اپنے بد قسمت

بیٹے کو اس قابل بھی نہ کیا کہ تیرے لئے دعائے مغفرت ہی کر سکتا۔ ایک دفعہ ایک نواب صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے اُن سے پوچھا آپ کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یاد نہیں۔ خدا معلوم انہوں نے کتنے جنازے پڑھے ہوں گے؟

ایک عام کی مثال ایسی ہے جس طرح ملاح بہت سارے لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر دریا کے پار لگا دے اور عابد کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی خود تیر کر دریا کے پار چلا جائے۔

اے پاکستان اے پنجاب اے لاہور کے باشندو! قیامت کے دن تم نہیں کہہ سکو گے رَبَّنَا مَا جَاءَنَا مِنَ نَذِيرٍ خذ یا ہم کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اے پاکستان کے باشندو کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھاؤ جس سے آئندہ آنے والے تم پر لعنت بھیجیں بلکہ ایسے کام کرو کہ آئندہ آنے والے تم پر رحمت بھیجیں؟

میں سی۔ آئی۔ ڈی سے کہتا ہوں کہ پبلک کی آواز حکومت تک پہنچا دیں وہ خود بھی مجرم ہوں گے۔ یہ پولیس وزراء اور حکام پبلک کے خادم اور اس کے ملازم ہیں جب وہ پاکستان کے مسلمانوں کا مال کھاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں کے مطالبہ کو بھی پورا کرنا چاہئے ورنہ قیامت کے دن چٹکارا مشکل

ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لئے کہتا ہوں۔ خدا سے ڈرو اور
 قبر میں جانے سے پہلے خدا سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ تم کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں
 آتی کہ ہم ملازم قائم نہ ہونے دیں گے۔ یہ ملازم کیا چیز ہے۔ ملا تو یہ کہتا ہے
 کہ پاکستان کا قانون قرآن اور شریعت اسلامیہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

صیغے دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر تم نے
 قرآن کے مطابق دستور نہ بنایا تو مسلمان اس کو کبھی نہیں مانیں گے اور پھر تمہارا
 جو مشر ہو گا وہ تم کو معلوم نہیں۔ آئندہ آنے والی نسلیں تم پر لعنت بھیجیں گی۔
 گنبدِ خضریٰ سے تم پر لعنت آئے گی اور خدا کی طرف سے تم پر پھٹکار پڑے
 گی۔ اگر اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا نہیں چاہتے تو پھر قرآن
 اور اسلام کے مطابق دستور بناؤ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سے بڑا
 ظالم تم سے بڑا فاسق اور تم سے بڑا کافر کوئی نہ ہو گا۔ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے

عورتوں کی عادت ہے کہ جب کسی بیٹ پر بھی جاتی ہیں تو اچھے سے اچھے
 کپڑے پہن کر جاتی ہیں۔ وہ دراصل تعزیت کے لئے نہیں بلکہ کپڑے دکھانے
 جساتی ہیں۔ اس سے مرد کا دل لپچاتا ہے اور اچھے مرد کو دیکھ کر
 عورت کا جی لپچاتا ہے عورتیں کوئی مریم کی بیٹیاں تھوڑا ہی ہیں ایمان جانے
 کا خطرہ دونوں کے لئے یکساں ہے اور سستیا تو عیاشی کے اڑے ہیں وہاں
 سے کس کا ایمان سلامت رہے گا۔ عورتوں اور مردوں کو چاہئے کہ میں جو کچھ

کہہ رہا ہوں اسے دوسروں تک پہنچا دیں **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ كَان آيَةً** کہ احمد علی آج
 سنیا کے متعلق یہ کچھ کہتا تھا تو جب جان ہماری نہیں بال ہمارا نہیں تو پھر ان
 کو اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے جب ہم موشیوں کو پالتے ہیں تو اس لئے
 کہ اس سے اہل جوتیں۔ رزق خدا تعالیٰ نے اس لئے دیا ہے کہ کھا کر اسکی عبادت کریں نہ اس
 لئے کہ سنیا جا کر دوسرے مردوں کے ساتھ اپنا ایمان خراب کریں ۛ



اسوے جہان میں خیر و شر کہیے یا نیک و بد۔ دونوں لائیں ایل کی پڑی کی طرح برباد
 چلی آ رہی ہیں اور چلی جا رہی ہیں اور یہ دونوں لائیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتیں
 جب تک جہان کو ختم نہ کر دیا جائے ختم ہونے کے بعد ہی حساب بقیق ہو سکتا ہے کہ ہر شخص
 نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کس لائن کی حمایت کی اور پھر خیر والوں نے خیر کی حمایت میں کتنی
 محنت کی اور کتنی تکلیف اٹھائی۔ اور شر والوں نے شر کی لائن کی کتنی تائید کی۔ کتنا روپیہ
 صرف کیا یا کتنا وقت صرف کیا وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً جب تک دہلی میں شاہجہان رحمۃ اللہ علیہ
 کی بنائی ہوئی جامع مسجد ہے اور قیامت تک جتنے مسلمان اس میں نمازیں پڑھیں گے اور ذکر
 الہی کریں گے اس وقت تک شاہجہان رحمۃ اللہ علیہ کی اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہو
 سکتا۔ جو سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بناء کی ہوئی ہے ہر نمازی اور سزا کر کا ثواب
 جو اس مسجد میں پڑھ کر گئے گا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا رہے گا اور جس شخص نے سنیا
 ایجاد کیا ہے جب تک یہ رہے گا جتنا روپیہ لوگ اس میں برباد کریں گے جتنا
 وقت ضائع کریں گے جتنے لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے سب کا گناہ اس
 موجد کو بھی ہوتا رہے گا ۛ

تقسیم ملک سے پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اگر ہم اپنی معاشرت شران مجید کے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق بنالیں تو ہندو اور سکھ اپنی بہو بیٹیوں کی عفت اور عزت بچانے کے لئے اور شریروں کے شر سے بچنے کے لئے مسلمانوں کے محلوں میں آکر آباد ہوں :-



پاکستان میں علمائے اسلام کی توہین و تحقیر کی ایک منظم تحریک چل رہی ہے کسی بڑے سے بڑے گناہ کی بیخ کنی اور روک تھام کے لئے اتنی سعی بلیغ نہیں کی جا رہی جتنی علماء اسلام سے عوام الناس کو نفرت دلانے کے لئے کی جا رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء اسلام کا وجود مسعود ابتداء اسلام ہی سے تبلیغ و اشاعت حق کے لئے معرض وجود میں آیا ہے۔



میرے انگریزی دان بھائیو! آپ کے نصابِ تعلیم پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی نے تمہیں پرائمری سے لے کر ایم، اے یا ایم بی بی ایس یا ایل ایل بی تک کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللّٰهُ بھئی نہیں پڑھایا اور آپ میں اکثر وہ گریجویٹ ہیں جنہوں نے کالج میں تسلیم پائی اور ہوسٹل میں زندگی بسر کی انہیں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدًا لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بھئی پڑھنا نہیں آتا۔ نماز تو علیحدہ چیز ہے۔ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ سے جا کر پوچھ لیجئے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ شہادت بھی نہیں

آتا۔ اور اگر باپ مر جائے تو باپ کے بخشوانے کے لئے نماز جنازہ میں جو دعا
اسلام نے سکھائی ہے وہ آپ کو نہیں آتی :

●
ہیکے بھائی مسٹر صاحب۔ دیکھ لو قرآن مجید میں نظام سیاست کا کیسا
عجیب گڑ بتلایا گیا ہے۔ اگر آپ ۱۹۴۷ء کے بعد پاکستان میں عہدے اور
الاٹ منٹیں تقسیم کرنے کے وقت اس قاعدے کا خیال رکھتے تو آج پاکستان
کی یہ بدتر حالت نہ ہوتی اور تباہی کے کنارے پر پہنچا ہوا نہ ہوتا۔ کیا تقسیم
ملک کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زبانوں سے آپ نے یہ لفظ نہیں
سنے کہ پاکستانی حکام سے کام کرانے کی دوہی صورتیں ہیں۔ رشوت یا رشتہ
یاں ہمہ سٹروں کا طبقہ تو علماء کو کوستا ہے کہ علماء سیاست نہیں جانتے۔
یہ طعنہ ایسا ہی ہے جس طرح بھینسن بھگت کو کہتے کہ تیرا منہ کالا ہے :

●
ہیوے بھائی مسٹر صاحب کیا آپ نے ۱۹۴۷ء کی تقسیم ملک کے بعد
واقعی ایسا ہی حق بحقدار رسید کیا ہے۔ کیا آپ نے لاہور میں ایک ڈاکٹر
کی دکان درزی کو الاٹ نہیں کی۔ کیا آپ نے ایک پروفیسر کو چاولوں کی
بل الاٹ نہیں کی۔ کیا بعض دیہاتی زمینداروں کو چھاپے خانے الاٹ
نہیں کئے۔ کیا خوب انصاف ہے !

شکست

یہ عاجز گنہگار ادنیٰ سے ادنیٰ سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کا خادم جو شیرانوالہ دروازہ مسجد لائٹن والی میں ۳۳ سال سے لاہور میں بفضلہ تعالیٰ درس قرآن دے رہا ہے حکومت پنجاب کی خدمت میں یہ پیش کش کرتا ہے کہ اگر شہر لاہور کے نظم و نسق سے متعلق رکھنے والے سرکاری عہدہ دار ایک ہفتہ کے لئے سارے اختیارات میرے سپرد کر دیں۔ تمام عہدہ دار تشخوہیں خود لیں۔ الاؤنس وصول کریں میں خدا کے فضل سے بلا معاوضہ خدمت کروں گا۔ فقط اختیارات بخشے دے دیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں مملکت خداداد پاکستان میں اسلام کی بنیاد رکھی جائے گی اور لاہور کے لاکھوں باشندے شہادت دیں گے کہ واقعی آج لاہور میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

پہلے ہی دن کا پروگرام

اگر دو بجے دن کے اس عاجز احمد علی کو لاہور کے نظم و نسق کے اختیارات سپرد ہوں گے تو اسی دن ۵ بجے شام ریڈیو پر اعلان کر دوں گا کہ پولیس کو حکم دیتا ہوں کہ لاہور کے چکلے (ٹہی) پر پکٹنگ لگا دیں اور بازاری عورتوں کے مکان کے سامنے اعلان کر دیں کہ اگر کوئی بد معاش

اندر ہے تو وہ گھنٹہ کے اندر اندر نکل جائے ورنہ اس کے بعد جو اندر سے
گرفتار ہوگا اگر بدکاری کپڑے پکڑا گیا اور چار گواہ مل گئے اور زانی شادی
شدہ ہو تو ^{بازاری} تہی میں کھڑا کر کے صبح کو سنگسار کر دیا جائے گا اور اگر
غیر شادی شدہ ہوگا تو ایک سو دس لگوائے جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ایک
دن ایک زانی کو سنگسار کر دیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن کوئی
بد معاش سٹی کی طرف منہ بھی نہ کرے گا اگر ایک بد معاش کو موت کے گھاٹ
اتارنے سے ہزاروں بد معاش تائب ہو جائیں اور زندگیوں کی بجائے اپنے
گھر جا کر آباد کریں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے بلکہ ہزاروں پردہ نشین
عورتوں کے دلوں سے دعا نکلے گی کہ اسلام زندہ باد۔ احمد علی زندہ باد۔ جس نے
ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیا۔ اور ہمارے بد اخلاق خاوندوں
کو بد اخلاقی سے ہٹا دیا اور ہزاروں روپیہ حرام کاری کے سلسلہ سے جو
زندگیوں کے گھروں میں جاتا تھا وہ بیوی بچوں میں صرف ہوگا ایک
ضروری نوٹ) اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے لاہور کی پولیس پر پورا
اعتماد ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسلام کے ہی خواہ اسلام کا
دور رکھنے والے شریعت کی طرف ذاری کا خیال رکھنے والے یقیناً موجود
ہیں جب میں اسلام کے نام پر اپیل کروں گا وہ یقیناً میرا ساتھ دیں
گئے اگر مزید کارکنوں کی ضرورت ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ لاہور سے باغیر
مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرا ہاتھ بٹانے کے لئے میدان میں
آکھڑی ہوگی۔

اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ سنگسار کرنا وحشیانہ سزا ہے تو میں
جواب دوں گا کہ ہر مجسٹریٹ شاہ لندن کے سینکڑوں باغیوں کو اگزاہور سنٹرل
جیل میں پھانسی دینا وحشیانہ سزا نہیں ہے تو شاہنشاہ حقیقی عزا سزا و جل مجاہد
کے باغی کی جان لینا کیوں وحشیانہ سزا ہے؟

دوسرا اعلان

پولیس کو حکم دوں گا کہ شراب کی دوکانوں کو مقفل کر دو۔ صبح سویرے تمام
بوتلیں سڑک پر ٹوڑ دی جائیں گی۔ کیونکہ شراب کا خریدنا اور بیچنا اسلام میں
دونوں حرام ہیں۔ ماں جس ہندو سکھ یا عیسائی نے پینا ہو وہ واہگہ کی حدود
میں جا کر پنی آئے۔

تیسرا اعلان

تمام سینما خانے مقفل کر دئے جائیں لاہور کے بعض انگریزی دان مبصرین
کی تحقیق ہے کہ لاہور کے سینما کی آمدنی ۴۰ ہزار ہے اس حساب سے
ایک ماہ کی آمدنی ۱۲ لاکھ بن جاتی ہے اور چونکہ فلمیں بھارت سے آتی ہیں
اس لئے اس آمدنی میں سے ۶۰ فیصدی بھارت کو جاتا ہے۔ میرے
بھائی سینما سے کیا نتیجہ نکلا۔ روپیہ برباد۔ وقت ضائع۔ اخلاق تباہ۔ مثلاً
سینما کے ان شوؤں سے نوجوانوں کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا۔ کس کی
پیاری۔ دو گھڑی کی موج۔ شادی کی پہلی رات۔ دوپٹے والی۔

چوتھا اعلان

تمام ہوٹلوں میں قہیں قانوناً جرم قرار دیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے

دالے کو سخت سزا دی جائے گی۔

پانچواں اعلان

ڈانس قانوناً جرم قرار دیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔

چھٹا اعلان

ریڈیو پر اعلان کر دوں گا کہ کل ظہر کی نماز دفتر میں پڑھنی پڑے گی۔ کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت دفتر کے وقت میں آتا ہے اس لئے ہر ایک سرکاری ملازم چادر گھر سے لائے تاکہ بچھا کر نماز پڑھ سکے۔ پولیس کو حکم دوں گا کہ ہر دفتر کے سامنے ملازمین کی تعداد کے مطابق مٹی کے لوٹے رکھیں اور سقوں سے ان میں پانی ڈلوادیں۔ بیشک ہر شخص اپنے اپنے طریقہ پر نماز پڑھے مگر جو نماز نہیں پڑھے گا اسے معطل کر دیا جائے گا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔

ساتواں اعلان

ریڈیو پر اعلان کر دوں گا کہ جو شخص چوری کرے گا اسے جیل کی سزا نہیں دی جائے گی ثابت ہونے پر چور کا ہاتھ کاٹ کر خصمت کر دیا جائے گا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ایک گاؤں میں سات سات آٹھ آٹھ ٹنڈے ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شہر لاہور میں ایک دو کے ہاتھ کاٹے گئے تو چوری ختم ہو جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ عقلمند ہیں اور مخلوق خدا کے اس سے زیادہ مہربان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اس جرم کے روکنے کے لئے جو اس نے سزا تجویز کی ہے وہی مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔

الحمد للہ! جب لاہور میں شراب خوری سینما ڈانس اور چوری بند ہو جائے گی اور نماز لازمی ہو جائے گی تو خدا کے فضل سے ہر مسلمان کی نیان پر یہ لفظ ہوگا کہ آج پاکستان کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ بد معاشوں شرابیوں۔ سینما بینوں۔ ڈانس کرنے والوں کے گھر میں ماتم کی صف بچھ جائے گی۔ یہ فقط پہلے دن کا پروگرام ہے جو عرض کیا گیا ہے۔

حلیج

اے انگریزی دان مسٹر! تو قرآن دان علماء کرام کے مقابلہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم نہ تو حکومت پاکستان کے خزانہ سے تنخواہ لیں گے۔ نہ رشوت لیں گے اور نہ امر بیکہ سے لیں گے اور تمہیں اصلی سچا اور کھرا پاکستان قرار دینا مقاصد کے مطابق بنا کر دکھا دیں گے پھر دیکھ لینا کہ سیاست تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں؟

برادرانِ اسلام! اور معزز خواتین! انسان کی یہ عادت ہے کہ جس کام کے لئے کہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے جس کے لئے وہاں گیا ہے اور سب کاموں میں سب سے ضروری اس کام کو سمجھتا ہے جس کے کرنے کے لئے وہاں گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے گاؤں سے علاقہ میں شہادت دینے کے لئے کسی شہر میں جاتا ہے جب اس شہر میں جائے گا تو جو شخص اس سے پوچھے گا کہ آج اس شہر میں کیوں آئے ہو تو سب دوستوں کو یہی جواب

دے گا کہ میں عدالت میں ایک شہادت دینے کے لئے آیا تھا۔ اس طرح ہر روز ن مسلمان کو یہ سبقت ہر دم یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں محض عبادت کے لئے آیا ہوں اور وہ شخص سب سے پہلے عدالت میں شہادت دینے کے لئے جائے گا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر دوسرے کام کا موقع مل گیا تو بہتر ورنہ اس کام کو چھوڑ کر واپس آجائے گا مثلاً جب شہر میں جا رہا تھا تو بیوی نے چند سووے لانے کی فرمائش بھی کر دی تھی جب خالی ہاتھ واپس آتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے سووے کیسے لاتا عدالت سے مجھے فراغت ہی ایسے وقت میں ہوتی تھی کہ دوڑ کر مشکل گاڑی پر سوار ہو سکا۔ اسی طرح ہر مسلمان عورت اور مرد کا فرض ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام الاوقات (پروگرام) پورا کرے اس کے بعد وقت بچے تو دنیا کے کام بے شک کرے اور نپکے تو دنیا کا کام رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ایسے شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے۔



پاگل سے کہتے ہیں جو کام اسے کرنا چاہیے وہ ہرگز نہ کرے خواہ آپ اسے ہزار مرتبہ سمجھائیں اور جو کام نہ کرنا چاہیے وہ ضرور ہی کرے خواہ اسے ہزار دفعہ منع کریں۔ مثلاً پاگل سے آپ کہیں کہ گلی کو چوں میں سارا دن آوارہ مست پھر کرو۔ دن کو محنت کر کے شام کو مزدوری لے کر مال بچوں میں بیٹھ کر کھایا کرو۔ کیا وہ آپ کے سمجھانے پر واقعی آوارہ گردی چھوڑ کر مزدوری کرنے لگ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بعینہ اسی طرح عام انسانوں کو دیکھ لیجئے

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان اس جہان میں محض عبادت کے لئے آیا ہے سب سے پہلے فرض انسان کا عبادت ہے۔ اس کے بعد جو وقت بچے کسب معاش کے لئے بیشک ہاتھ پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حلال کے تھپڑے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اور ضرورتیں پوری ہو ہی جائیں گی۔ اس آئینے میں موجودہ زمانے کے مردوں اور عورتوں کو دیکھئے کہ عبادت تو یاد ہی نہیں۔ ہر ایک کے دل و دماغ سے روٹی روٹی کی صدا آ رہی ہے جو کام کرنا چاہیے وہ تو کرتے نہیں یعنی عبادت اور جس کی فکر بعد از فراغت نمبر دو م ہونی چاہیے وہ نمبر اول پر لائے ہوئے ہیں اور اس کے لئے دن رات سرگرداں اور پریشان پھر رہے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کو کلمہ شہادت بھی نہ آئے تو کوئی حرج نہیں مگر خدا کرے کہ دونوں بی، اے کی ڈگری پالیں تاکہ عورت سے روٹی کما کر کھا سکیں اور قاعدہ یہ ہے کہ پاگل آدمی عقلمند کو پاگل سمجھتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں بالخصوص علماء کرام کو بے ایمان کہا جاتا ہے۔ مولوی بڑے بے ایمان ہوتے ہیں۔ مولوی کا قصور یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ نماز باقاعدہ پڑھو۔ روزے باقاعدہ رکھو۔ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی پائی پائی حساب کر کے دو۔ مولوی یہی باتیں کہتا ہے جس پر اُسے بے ایمان کہتے ہو کیا مولوی تمہیں یہ کہتا ہے کہ شراب پہلے سے زیادہ پیو؟ رشوت پہلے سے زیادہ کھاؤ؟ بدکاری پہلے سے زیادہ کرو؟ نعوذ باللہ من ذلک فقط مولوی کو بے ایمان کہتے ہیں۔ باقی یہ شرابی۔ زانی۔ رشوتیں کھانے والے

اکثر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی نادانگی کا باعث برادری کی
 رسمیں پوری کرنے کے لئے فضول خرچی کرنا ہے مثلاً شادی اور عہمی میں
 باوجودیکہ توفیق نہیں ہوتی پھر قرض لے کر وہ رسمیں پوری کرتے ہیں اور
 کہتے یہ ہیں کہ اگر نہیں کرتے تو ناک کٹی ہے۔ تقسیم سے پہلے اسی فضول
 خرچی کے باعث ہر مسلمان سترہ کروڑ روپیہ فقط اپنے قرضہ کا سود
 ادا کرتا تھا اور قرض بحال رہتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بننے
 کی برکت سے مسلمان اس قرضے سے بے باق ہو گیا ہے ۛ



جنے اللہ کے بندوں نے دین کی حفاظت اور اشاعت کو اپنی
 زندگی کا نصب العین قرار دیا ان مسکینوں نے پہلے مسجدوں میں
 روکھے اور سوکھے ٹکڑے کھا کر علماء دین سے قرآن مجید اور اس کے متعلقہ
 علوم پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں میں بیٹھ
 کر قرآن مجید اور اس کے متعلقہ علوم مسلمانوں کو پڑھائے۔ انہیں
 علمائے کرام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ
 سے لے کر آج تک دین محفوظ رہا ہے ۛ



صدی سے کہا کرتا ہوں رنگ ہے قرآن۔ رنگ فروش ہیں علمائے
 کرام۔ رنگ ساز ہیں صوفیائے عظام۔ مثلاً تہجد کا لفظ قرآن مجید
 میں آیا ہے۔ علمائے کرام کی صحبت میں بیٹھ کر طالب علم میں یہ کمال پیدا

ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ تہجد پر نکتہ سیریا تین گھنٹے بول سکتا ہے کہ یہ لفظ سہ اقسام میں کیا ہے۔ شش اقسام میں کیا ہے۔ ہفت اقسام کے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر کیا اتنی تفصیل علمی معلوم ہونے کے بعد طالب علم تہجد پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے؟ اگر طالب علم سے کہا جائے تو تہجد کے فضائل بیان کر تو کم از کم ایک گھنٹہ تک بیان کر سکتا ہے۔ مگر کیا اس تہجد علمی کے باوجود وہ طالب العلم تہجد پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل کے پاس جائے گا تو وہاں تہجد پابندی سے پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔



غریب سے غریب مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرے گا۔ کپڑے اگرچہ پھٹے پرانے ہوں گے مگر پشیاپ کے قطروں سے اس کا بدن پاک اور کپڑے پاک ہوں گے۔ اور برٹے سے بڑا مالدار انگریز یا انگریز کا تاجدار اختیار کرنے والوں کی رائیں پلید ہوں گی۔ ان کی رائوں اور پتلوں میں پشیاپ کے قطروں کی بُو ہوگی۔



کیا یہی ترقی ہے؟

کیا یہی ترقی ہے جو انگریز نے مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ مثلاً پہلے صبح کا ناشترہ باسی روٹی اور مکھن اور لسی کا کرتے تھے۔ اب ناشترہ ٹوس چاء

اور مکھن جو چھری سے ٹوسوں پر لگایا جائے اس میں انسائیت کو کونسی ترقی نصیب ہوئی ہے بلکہ پہلے سے تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر پہلے چاء پکانے اور پینے کے برتن ماکھیے۔ پھر آگ جلائیے۔ پانی پکا کر چائے کی پتی ڈالیے۔ پھر اسے دم کیجئے۔ پھر دو دو گرم کیجئے۔ پھر اسے شیردانی میں الگ ڈالیے۔ پھر شکر دانی میں شکر الگ رکھیے۔ پھر ڈبل روٹی لائیے یا منگوائیے۔ پھر اس کے ٹکڑے کیجئے۔ پھر انہیں آگ پر گرم کیجئے۔ پھر چھری سے ان پر مکھن لگا بیٹھے یہ ترقی یافتہ لوگوں کا ناشتہ ہے۔ اس ترقی یافتہ ناشتہ میں اندازہ لگا بیٹھے محنت کتنی کرنی پڑتی ہے؟ وقت کتنا صرف ہوا؟ روپیہ کتنا صرف ہوا؟ پھر ان سارے تکلفات کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب عقلمندوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ باسی روٹی اور مکھن سے کھانے میں جو نوجوانوں میں طاقت آتی ہے کہ بڑے قوی ہو سکیں، تنومند، لمبے قد اور چوڑی چھاتی والے نوجوان پیدا ہوتے تھے۔ اب وہ طاقت چاء اور ٹوس سے ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ اب تو بقول حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری "آج کل کے نوجوان کوہ قاف کی پرپاں ہیں۔ سکر پتلی، نازک اندام۔ ہونٹوں پر پان کی سرخی۔ منہ میں پتلا سا سگریٹ اور ہاتھ میں پتلی سی چھڑی ہائے افسوس صد افسوس عاقبت نا اندیش لوگ اور عقل کے اندھے اس کو ترقی کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ط

پرانے زمانے میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں محلوں میں جو استانیاں

ہوتی تھیں ان سے دین کی کتابیں پڑھتی تھیں اور انہی سے نماز روزہ
 سیکھ لیتی تھیں۔ عام طور پر اس وقت کا نصابِ تعلیم سچی روٹی۔
 نجات المؤمنین اور احوال الآخرة ہوتا تھا۔ اتنی ہی تعلیم پانے کے بعد وہ
 ایک باحیا۔ باادب اور سلیقہ شعار ماں باپ کی خدمت گزار اور بھائی
 بہنوں کی مونس و غم خوار ہو جاتی تھیں۔ سچی روٹی پڑھنے کے باعث
 ان کے اسلامی عقائد درست ہو جاتے تھے۔ اور احوال الآخرة پڑھنے کے
 باعث ان کے دل میں خوفِ خدا اور قیامت کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔
 غرضیکہ ان مستورات کے عقائد درست ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ سے
 ڈرتی تھیں۔ نماز روزے کی پابند ہو جاتی تھیں۔ پاکستان تو اب بنا ہے
 اس وقت تک تو تعلیم یافتہ مردوں اور عورتوں کی وہی نسل ہے جو انگریز تیار
 کر گیا۔ کیا انگریز نے پرائمری سے لے کر ایم اے تک کہیں خوفِ خدا کی تعلیم
 دی تھی؟ کہ تم پر خدا تعالیٰ کے لئے بندگی کا حق ہے یا تم پر ماں باپ کا یہ
 حق ہے اور اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور تم پر بہن بھائیوں کے
 یہ حقوق ہیں اور تم پر خاوند کے یہ حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ؟

●
 علمائے کرام کے بعد اسلامِ محمدی کی دوسری محافظِ جماعت صوفیائے
 عظام کی ہے۔ علمائے کرام تو قرآن مجید اور حدیث شریف کا مطلب
 سمجھاتے ہیں مگر باوجود سمجھ جانے کے پھر بھی عملی کمزوریاں سمجھنے والوں
 میں باقی رہتی ہیں۔ ان عملی کمزوریوں کی اصلاح صوفیائے عظام کی صحبت

میں بیٹھنے سے ہوتی ہے بشرطیکہ ان کے حضور میں عقیدت سے بیٹھے۔ ادب کرے اور جو فرمائیں اس پر پورے طور سے عمل کرے۔ ایک تو رنگ ہے دوسرا رنگ فروش ہے۔ تیسرا رنگ ساز ہے۔ رنگ فروش سے رنگ لاتے ہیں اور پگڑی پر رنگ ساز سے رنگ چڑھواتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کا نقشہ ہے۔ قرآن مجید ایک عجیب رنگ ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے جو اس رنگ سے رنگا جائے اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بہر حال قرآن مجید ایک رنگ ہے اور رنگ فروش علمائے کرام ہیں ان کی صحبت سے یہ رنگ ملتا ہے اور رنگ ساز صوفیائے عظام ہیں۔ ان کے حضور میں مدتِ دید تک رہنے سے قرآن مجید کا رنگ ایک نیک نیت خدا کی رضا کے طالب انسان پر چڑھ جاتا ہے



حجاب سوء معرفت یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی معاملہ میں صحیح علم ہی نہ پہنچا ہو۔ مثلاً کسی شخص نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ بزرگوں کو ثواب پہنچانے اور ان کی روح کو خوش کرنے کے لئے عرس کرنا چاہیے اور اس کی صورت یہ ہو کہ ان کی وفات کے دن اکیلے یا چندہ جمع کر کے وال میں گوشت ڈال کر ایک دیگ پکائی جائے۔ اور قوالوں کو بلا کر طیلے بجوائے جائیں اور طبلوں کی تھاپ کے ساتھ ساتھ نعتیہ اشعار پڑھے جائیں اور اس دن کنجریاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سلام کے لئے بے شک شوق سے آئیں کنجری دوزانو بیٹھ کر حضرت کے مزار کی طرف منہ کر کے گانا گائے اور

اس کے پیچھے بیٹھ کر مار مومنیم بجانے والا ہار مومنیم بجائے۔ تو ال بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ "حضرت رحمۃ اللہ علیہ" کی روح بڑی خوش ہو رہی ہے۔ اور گانے والی کنجری بھی یہ خیال کر رہی ہے کہ "حضرت" کی روح گاناسن کر بڑی خوش ہو رہی ہے اور لوگ بھی اس نظارہ کو دیکھنے کے لئے جوق در جوق قریب کیا بلکہ دور دور سے آرہے ہیں کہ "حضرت رحمۃ اللہ علیہ" کے عرس میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں حالانکہ یہ سارا معاملہ ہی غلط اور خلاف شرع ہے۔ برادران اسلام اصلی سچا اور کھرا دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا کر کے دکھایا ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگان دین کی روح کو خوش کرنے کے لئے یہ طریقہ سکھایا ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ طریقہ کر کے دکھایا یا ائمہ عظام یا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان دین کے اس طرح پر عرس کر کے دکھائے۔ یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کی روح کو خوش کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اگر یہ چیزیں مسلم التعظیم بزرگوں سے نقل ہو کر نہیں آئیں۔ تو پھر بتلائیے کہ ان چیزوں کو اسلام خیال کر کے کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ جن چیزوں کی تفصیل اوپر عرض کر چکا ہوں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے ثابت نہیں ہیں اور کرنے والے انہیں اسلام ہی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور جو رو کے اس سے لڑتے جھگڑتے اور مار پیٹ تک تیار ہو جاتے ہیں۔ اس غلط طریقہ کے اختیار کرنے میں عوام کا

کوئی قصور نہیں ہے۔ اہلی قصور فقط انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے عالم
دین کو ہلا کر انہیں دین کا مفہوم غلط بتایا۔ اسی کو حجاب سوء معرفتہ کہتے
ہیں کہ علم ہی غلط ثابت ہوا ۛ



ایک مثال ملاحظہ ہو۔ کہ ایک براتیوں سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کہا
کرتے ہیں کہ دوٹھا کے سر پر سہرا باندھنا ہندو اور رسم کی پابندی سہرا اور
اسراف ہے جو کہ گناہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے (پنجابی میں) ”اٹے جھلیا۔ ایہ
مولویاں دیاں گلاں نیں۔ اسی کوٹی مولوی آں“ یہ کہنا شریعت کو جھٹلانا ہے
شریعت کی پابندی جس طرح علماء کے لئے لازم ہے ویسی جاہلوں کے لئے بھی
ہے ۛ



قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں پیدا کی
ہیں۔ ہر اصلی کے مقابلہ میں نقلی چیز پائی جاتی ہے۔ ہر کھری کے مقابلہ میں کھوٹی
چیز دنیا میں موجود ہے اس لئے اسلحہ کی گدی پر جلوہ افروز ہونے والوں
میں بعض کھرے ہوتے ہیں اور بعض کھوٹے۔ لہذا کھرے مصالح کی پہچان ضروری
ہے۔ صحیح مصالح کی پہچان یہ ہے۔ نمبر ۱۔ اگر وہ قرآن مجید اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا عالم نہ ہو تو کم از کم بقدر ضرورت دین کی
اچھی خاصی واقفیت رکھتا ہو اسے توحید اور شرک میں تمیز ہو۔ سنت اور
بدعت میں تمیز ہو اصلی دین محمدی جو دربار نبوی سے چلا تھا اور جو بعد میں

اس میں ملاوٹ ہوئی ہے۔ اس کو تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (۳) خود
 اس اصلی دین کا پابند ہو خصوصاً ارکانِ خمسہ اسلام کا پابند ہو (۴) اس
 کی صحبت میں جانے سے طبیعت کا رجحان یادِ الہی کی طرف ہوتا نظر آئے
 اور وہ اپنی صحبت میں اپنے عیبوں کو دیکھنے اور ان کی اصلاح کی طرف
 توجہ دلائے (۵) مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بددیانتی نہ کرنے پائے
 (۶) جلیب زر کا حرص نہیں نظر نہ آئے (۷) لوگوں پر اپنی حاجتوں کا اظہار نہ
 کرنے پائے (۸) اللہ تعالیٰ جو اسے رزق عطا فرمائے اس پر قناعت کرنے
 والا ہو۔ ان صفات سے متصف ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت
 اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت انسان کو صحیح
 معنوں میں انسان بنا دیتی ہے بشرطیکہ ان کی صحبت میں رہنے کی جو شرائط
 ہیں انہیں پورے طور پر نبھائے اور وہ تین شرطیں ہیں۔ (۱) عقیدت۔
 (۲) ادب اور (۳) اطاعت۔ جب پہلے شیخِ کامل کی صفات کے آئینہ
 میں اپنے شیخ کو پرکھ کر اس کے ساتھ اپنی اصلاح کا تعلق قائم کیا ہے۔ اب
 اس کے متعلق اپنے خیالات کو مضبوط رکھے، اپنے ذرا ذرا سے وساوس سے
 اپنے عقیدے کو مجروح نہ کرے۔ اس کے بعد شیخ کے ادب میں فرق نہ آئے
 اس میں اس کے حکم کی پوری تعمیل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس طریقہ پر شیخ کے
 ساتھ زندگی بسر کرنے سے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ شیخِ کامل کے کمالات
 کا عکس اس طالب کے قلب پر پڑتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے
 اور اگر خدا نخواستہ شیخِ کامل کی صحبت میں جا کر بھی اپنی جہالت کی بنا پر ان

کے رویہ پر اعتراض کرتا رہے تو پھر یہ صورت بن جاتی ہے۔
 تہذیبِ ستانِ قسمتِ راجہ سو دا ز رہبرِ کابل
 کہ خضر از آبِ حیوانِ تشنہ می آرد سکندر را
 اسحٰد اللہ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں یہ سب میرے مشاہدہ میں آئی ہوئی
 ہیں۔



مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہیں قومِ عاد کی سی غلطی میں
 تو مبتلا نہیں ہیں۔ ہر اور انِ اسلام! اولیائے کرام کا ادب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کے طریقہ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ جس طرح ان کا اٹھنا
 بیٹھنا۔ کھانا۔ پینا۔ جاگنا۔ سونا۔ کسی سے دوستی یا دشمنی رکھنا سب
 اللہ تعالیٰ کی رضا کے ماتحت اور اس کے نازل کردہ ضابطہ آسمانی کے ماتحت
 ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
 اولیائے کرام نے یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ ہماری قبروں پر آکر سجدے کرنا
 سنتیں ماننا۔ چڑھاوے چڑھانا اور ہماری قبروں پر ریشمی غلاف چڑھانا
 عرس کرنا۔ طلبے بجانا۔ بازاری عورتوں کو عرس کے موقعہ پر سلام کے
 لئے بلانا اور ہمیں ان کے گانے سنانا اور جب وہ بازاری عورت گانا
 گائے تو اس کے پیچھے ہار مونیم والے کو بٹھا دینا۔ وہ ہار مونیم بجائے اور
 بازاری عورت گانا گائے تب ہم بڑے ہی خوش ہوں گے نعوذ باللہ
 من ذلک الطغیان۔

اکثر جمعہ کی تقریر کی ابتداء میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں عرض کروں گا اگر سننے والا گوش ہوش سے سنے اور لوح دل پر اس کو لکھ کر لے جائے اسے عمل میں لائے اور سجدہ قبر تک نبھائے انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوگا قبر بہشت کا باغ بن جائے گی قیامت کے دن دربار نبوی میں شرف پاریابی حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ جو شخص کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ چالیس ہزار سال کا دن چار رکعت فرض کی دیر میں گزر جائے گا۔ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور بہشت کا ٹکڑا مل جائے گا۔



سبیل مقدمات میں انگریز پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ اس مقدمہ کے ملزم کو یہ سزا دینی ہے اس کے بعد مقدمہ چلاتا تھا تاکہ ملزم کی تسلی ہو جائے کہ میرا فیصلہ عدالت سے انصاف پر مبنی ہوگا۔ ادھر مجسٹریٹ کو ہدایت ہوتی تھی کہ مقدمہ چلاؤ مگر فیصلہ وہ کرتا جو حکومت پہلے کر چکی ہے مثلاً تحریک کشمیر میں میرے خلاف سرکاری گواہ آکر مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتا ہے کہ تقریباً اڑھائی مہینے ہوئے کہ میں نے چوک وزیر خاں میں احمد علی کی ایک تقریر سنی تھی جو حکومت برطانیہ کے خلاف سخت تقریر کر رہا تھا یہ مقدمہ بورسٹل جیل کے اندر چل رہا تھا میں نے مجسٹریٹ سے کہا کہ یہ گواہ دو غلط بیانیوں کر رہا ہے۔ پہلی یہ کہ میں نے عمر بھر کبھی وزیر خاں کے چوک میں تقریر نہیں کی۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ اڑھائی مہینے ہوئے ہیں کہ میں

نے اس کی تقریر سنی تھی۔ حالانکہ مجھے تقریباً تین ماہ بورسٹل جیل میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ باوجود اس غلط بیانی کے مجھے سزا دی گئی اور اولڈ جیل ملتان بھیج دیا گیا۔



مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو سرے سے قرآن مجید پر عمل کرنے کی مخالف ہے۔ ان کا یہ مقولہ ہے کہ ہم ملازم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ملا کے پاس کیونکر ہم ہے یا سوشلزم ہے ملا کے پاس قرآن مجید ہی تو ہے یا اس کی شرح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ملازم قائم نہیں ہونے دیں گے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث نبی کریم کو ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں میں ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید کو نافذ کریں گے لیکن اس کا مفہوم اور مطلب وہ نہیں لیں گے جو سارا تیرہ سو سال سے اسلام کے فدائی اور جان نثار مفسرین اور محدثین رحمۃ اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے لے کر آج تک سنتے اور سناتے پڑھتے اور پڑھاتے آئے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو اقلیت میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کا وہ نقشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں تھا۔ علمی طور پر بھی وہی رائج ہو۔ اور عملی طور پر بھی اسی رنگ کی پیروی کی جائے تاکہ جو برکتیں اس زمانہ میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھیں وہ آج پھر مسلمانوں کو نصیب ہوں اور جو خدا تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت

کے مسلمانوں پر نازل ہوئی تھیں آج پھر نازل ہوں۔ لیکن ان کی اقلیت کے باعث ان کی آواز کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔



میدے درس قرآن مجید اور بعض اوقات جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کی دنیاوی زندگی کا یہ ٹھاٹھ ہو کہ اڑھائی لاکھ روپے کا بنگلہ تعمیر شدہ ہو۔ جس میں اس شخص کا قیام ہو۔ چاس ہزار کی موٹر ہو گھر میں بیگ صاحبہ بھی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے رکھی ہو۔ بنگلے کے آگے چین ہو جس میں مالی کام کر رہا ہو۔ میاں صاحب کے گھر مستقل دھو بی ہو خاندانے اور بیرے خدمت گزاروں کے لئے ہر وقت دست بستہ حاضر رہتے ہوں اور اس گھر میں دین کا نام و نشان نہ ہو۔ گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نہ کسی کو صحیح کلمہ ہی آتا ہے غرضیکہ دین اسلام کی کوئی علامت اس گھر میں نہیں ہے۔ پس اپنے اللہ کے فرمان کے مطابق قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمہاری بیوی بیگ صاحبہ کی سہیلی بن جائے اور میاں صاحب تمہارے مخلص یار بن جائیں پھر اس گھر کے پوشیدہ حال تمہیں معلوم ہوں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی زندگی کتنی تلخ گزر رہی ہے۔ ناسور کے مرین کی طرح بظاہر بدن پر کوئی زخم نہیں ہے اور کپڑے بھی صاف ستھرے اور قیمتی ہیں۔ مگر ناسور والا زخم اندر ہی اندر جان کو کھا رہا ہے۔ مرین کو نہ دن میں چین ہے نہ رات کو۔

میں سے کسی کی ذات کا مخالف نہیں ہوں۔ البتہ مخالف شریعت کے کردار کا مخالف ہوں۔ کھری باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ اے اللہ ہم عالم نہیں تھے اور تیرے کسی بندے نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین ۛ



الحدید اللہ تم اسجد اللہ یہ گنہگار اور عاجز (احمد علی) اپنے دوستوں کی مجالس میں علی الاعلان یہ عرض کیا کرتا ہے کہ حضرات اولیاء کرام کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے اور ان کے متعلق دل میں اتنا ادب ہے میرے الفاظ ہوتے ہیں کہ "اولیاء کرام کے جوتوں کی خاک میں سے وہ موتی ملتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن کو یہ موتی نصیب ہوتے ہیں وہ ان موتیوں کو قبر میں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر کو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے اور وہ خوش نصیب ان موتیوں کو کو لے کر قبر سے اٹھ کر میدانِ محشر میں حاضر ہوگا ۛ



اگر جنرل محمد ایوب خاں صاحب صدر مملکت پاکستان و چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اسی تدبیر اور جرأت خدا داد سے کام لیں جس سے انہوں نے پاکستان میں ایک عجیب انقلاب کرنے میں لیا ہے تو پاکستان یقیناً

ناقابلِ تسخیر پاکستان بن سکتا ہے۔

صدر مملکت پاکستان کی خدمت میں پیشکش

اگر آپ پاکستانی فوج کے مندرجہ ذیل عہدہ داروں (جنرل۔ کرنل
لقینٹ جنرل۔ میجر جنرل) کو قرآن مجید کے ان اصول سے واقف کرنا
چاہیں تو یہیں اپنی خدمت بشرائط ذیل پیش کرتا ہوں :-
میری ذات کے متعلق شرائط

۱- اس خدمت کا حکومت سے معاوضہ نہیں لوں گا۔
۲- چونکہ مجھے بائیں طرف بدن کے فاسج کا اثر ہے اس لئے لاہور یا کراچی
میں اس خدمت کے لئے حاضر ہو سکتا ہوں جس مقام پر زیادہ سہولت
ہو وہاں جانے سے معذور ہوں۔

۳- بستر امیر اپنا ہوگا۔
۴- کھانا اپنی گزہ سے کھاؤں گا۔ اگر کسی فوجی مرکز میں قیام ہوگا تو فوجی ننگر
سے قیمتاً کھانا کھاؤں گا۔

۵- چونکہ میں ۷۲ سال کا بوڑھا ہوں اس لئے میرے ساتھ ایک خادم بھی
رہے گا جس کے اخراجات بھی میرے ذمہ ہوں گے۔

۶- فقط میری اور میرے خادم کی سواری کا انتظام حکومت کے ذمہ ہوگا
۷- ان اصول کے متعلق زبانی لیکچر نہیں ہوں گے بلکہ قرآن مجید اور احادیث
کا لفظی ترجمہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی کتاب کے اندر سے

پڑھاؤں گا جس طرح طالب علم استاد سے پڑھتا ہے۔
استفادہ کر نیوالے احباب کے متعلق شرائط

۱۔ جن احباب کو قرآن مجید اور کتب حدیث سے ان مضامین کو پڑھنے کا
دلی شوق ہو۔

۲۔ پڑھانے کے بعد میں امتحان لیا کروں گا تاکہ ان میں یہ استعداد پیدا ہو جائے
کہ آئندہ ان مضامین کو دوسرے کے سامنے تقلیداً نہیں بلکہ اپنی ذمہ
داری سے قرآن مجید اور حدیث شریف سے نکال کر پیش کر سکیں۔
ممنون ہوں گا

اگر صدر مملکت پاکستان میری اس پیش کش کو منظور فرمائیں تو میں ان کا
تبادل سے ممنون گا۔ اس چیز کا معتدلی اثر یہ ہو گا کہ ان ذمہ دار افسروں
کے ذریعہ سے مملکت پاکستان میں اسلام کے زندہ - تابندہ اور پائیدہ
رہنے کے لئے کریں گے جب یہ نیت فوج کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی
تو پھر پاکستانی فوج کسی میدان میں ہرگز ہرگز شکست نہیں کھائے
گی۔

ارکے موجودہ دور کے مسلمان اگر تو نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے اور
شراب پیئے اور ڈانس کھیلے اور روزانہ سینما کے شو دیکھے پھر اگر تیرا نام
محمد بن ہو۔ یا الہ دین ہو یا اللہ رتہ ہو یا عبد اللہ جان ہو یا عبد اللہ خان
ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض

ہوں گے روزانہ ڈائری نوٹس رکھنا کا تبین (فرشتے تم سے ناراض ہوں گے
اللہ تعالیٰ کی ان نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے تم خیال کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
کی مدد تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے؟



اہل سنت و الجماعتہ کہلانے والے مسلمانوں کے لئے غور کرنے کا
مقام ہے اہل سنت و الجماعتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت یعنی طریقہ کے پابند ہیں اور اس سنت پر عمل کرنے میں
ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں یعنی صحابہ کرام ہمارے
اسلاف تھے اور ہم ان کے اخلاف یعنی جانشین ہیں۔ میں اپنے اس
دور کے اہل سنت و الجماعتہ سے عرض کرتا ہوں۔ کیا ہمیں اس مبارک لقب
کے استعمال کرنے کا حق ہے؟ کیا صحابہ کرام بھی نماز التزام سے نہیں پڑھا
کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے؟
کیا صحابہ کرام مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ
کرام شادیوں پر باجے سجوا یا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام دو لہاکے سر پہرا
باندھا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام دو لہاکو سگن کے طور پر ضروری گھوڑی
پر بٹھا کر لے جایا کرتے تھے؟ خواہ سسرال کا گھر دس قدم کے فاصلہ پر ہی
ہو۔ کیا صحابہ کرام دو لہاکے پیچھے گھوڑی پر سر بالا بٹھایا کرتے تھے؟ کیا
صحابہ کرام بارود کے گولے برات میں ساتھ لے جایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ
کرام دو لہاکے ہاتھ ہندی سے رنگا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام داڑھی

منڈوایا کرتے تھے اور کیا صحابہ کرام کا روپار سے فارغ ہو کر رات کو
 نندھیوں کے گانے ربا لفاظ و دیگر سینما سنا کرتے تھے۔ اے موجودہ
 دور کے اہل سنت و الجماعت تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اہل سنت و الجماعت
 کہلا کر تعلیم قرآن مجید کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کی مخالفت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی
 مخالفت اگر تمہیں اپنے اس طرز عمل میں تبدیلی کرنے کی ضرورت
 محسوس نہیں ہوتی تو پھر ان نسبتوں کو چھوڑ دو مسلمان نہ کہلاؤ تاکہ دشمنان
 اسلام حضور کی امت کی توہین نہ کر سکیں۔ اہل سنت و الجماعت نہ کہلاؤ
 تاکہ صحابہ کرام کی توہین تو نہ ہو۔ کیونکہ دشمنان اسلام یہی خیال کریں گے
 کہ حضور کے صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہوں گے۔

صدیے تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ دانے دانے
 پر مہر لگی ہوتی ہے کہ جو دانہ جس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی کھائے
 گا۔ دوسرا نہیں کھا سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بندے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں جس لڑکے کے لئے
 جو لڑکی اور جس لڑکی کے لئے جو لڑکا لکھا ہوا ہے نہ اس لڑکے کی
 شادی کسی دوسری لڑکی سے ہوگی اور نہ اس لڑکی کی شادی کسی
 دوسرے لڑکے سے ہوگی۔ اے مسلمان تیرا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر
 ایمان ہے پھر تمہیں لڑکی اور لڑکے کے نکاح کی کیا فکر ہے۔ اسلام کا

فیصلہ تو یہی ہے جو عرض کر چکا ہوں :

تہارے بیوی رنگ و روپ کی سادہ ہے مگر انتہا درجہ کی
 وفا شعار خدمت گزار اور خاوند کے ماں باپ کی تابعدار دن رات
 لونڈیوں کی طرح ان کی خدمت کے لئے مکر بستہ رہتی ہو وہ سزا درجہ
 اس خوبصورت بیوی سے بہتر ہے جسے اپنے حسن پر اتنا ناز ہو کہ تمہیں
 بھی بد صورت ہونے کے باعث ذلیل سمجھے اور اپنے حسن و جمال کے
 باعث خاوند کے ماں باپ کی خدمت کو اپنے حق میں عار خیال کرے اور
 اگر ہانڈی روٹی پکانے کے لئے ساس کہے تو یہ جواب دے کہ میں کوئی
 باورچین بن کر آئی ہوں اور اگر ساس پانی مانگے تو کہے کہ میں کوئی تیرمی
 لونڈی بن کر آئی ہوں۔ اے مسلمان تو خود فیصلہ کر کہ پہلی بیوی بہتر ہے
 یا دوسری :

آج چودھویں صدی میں جو علماء کرام پیغام حق کتاب و سنت سے
 نکال کر پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف شیطان لعین عوام الناس
 سے مخالفت کر رہا ہے جو علماء کرام کتاب و سنت سے احکام پہنچاتے
 ہیں انہیں وہابی بنا دیتا ہے۔ وہابی کا لفظ ایک ہوا بنا رکھا ہے وہ
 ذابیت کیا ہے اس کے معنی علماء کو بھی معلوم نہیں کیونکہ سارے
 نصاب تعلیم عربیت میں وہابی کی تاریخ ہے ہی نہیں اب ساری

عرضداشت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہابیت کی تاریخ علماء کرام کو بھی معلوم نہیں اور ہر جاہل کے منہ میں وہابیت کا لفظ ہے شیطان نے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے ؟



جاہلے مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر منت مان آتے ہیں کہ اے بزرگ اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں تیری قبر پر ایک بکرہ چڑھاؤں گا جب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بیٹا دیتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے اس کا شکر کروں بلکہ ایک بکرہ خرید کر کے اس بزرگ کی قبر پر (مثلاً پانچ میل یا چھ میل) پر جا کر ذبح کرتا ہے تاکہ اس بزرگ کے احسان کا شکر یہ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر شکر یہ کے طور پر بکرہ ذبح کروانا تو اللہ تعالیٰ اس کے گاؤں میں بھی موجود تھا۔ اور یہ بزرگ وہاں گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اس لئے بکرے کو گاؤں سے چلا کر اس بزرگ کے مزار پر لایا ہے دراصل یہ حق اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اس کا شکر یہ ادا کرتا کہ اس نے بیٹا دیا ہے اور بجائے اللہ تعالیٰ کے اس بزرگ وفات یافتہ کا ممنون احسان ہوا کہ اس نے دیا ہے اور یہی ظلم اور بے انصافی ہے کہ بیٹے کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس نے اس مردہ بزرگ کا شکر یہ ادا کیا۔ جس کا اس نعمت کے عطا ہونے میں میں کوئی دخل ہی نہیں۔ بیٹا یا بیٹی دینا فقط اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نہ کسی وفات یافتہ بزرگ کے اختیار میں ؟

باب دوم

مجالسِ ذکر کے چیدہ چیدہ فقرات

حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ عصرِ حاضر میں روحانیت کے آفتاب اور صدیقِ دورانِ تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ راشدیہ کے وہ خورشیدِ جہانِ کتاب تھے کہ جس کی شعاعوں سے ایک عالم نے اکتسابِ فیض کیا اور اور اپنے قلوب کو ذکر و فکر کے انوار سے منور کیا۔ جمعرات کی شام کو نمازِ مغرب کے بعد جامع شیر النوالہ میں مجلسِ ذکر منعقد ہوا کرتی تھی جس کے اختتام پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ متوسلین کی ہدایت اور امراضِ روحانی سے نجات حاصل کرنے کے نسخے تلقین فرمایا کرتے تھے یہ نسخے امراضِ روحانی کے لاکھوں مریضوں نے آزمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان کے دلوں کی دنیا بیل گئی اور وہ امراضِ روحانی سے شفا یاب ہو کر آسمانِ ہدایت پر ماہِ وانجم بن کر چمکے۔ اللہ والوں کے الفاظِ دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اور دلوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں ع۔ ہر کہ از دل می خیزد بر دل می ریزد۔ یہاں حضرت قدس سرہ کے ایسے ہی الفاظ کا مجموعہ اور امراضِ روحانی کے نسخے جات کا ذخیرہ ہے۔ پڑھئے اور سُرودِ صحتیئے :

تربوز کی رنگت دلکش اور جاذب ہوتی ہے اس کا ذائقہ بیٹھا اس
 کا شربت تشنگی کا دافع اور اس کا کھانا اشتہا انگیز ہے بعینہ فکر
 الہی ہے۔ ذکر خفی ہونا ذکر جلی۔ ذاکر ہر طرح سے اس سے مستفید ہوتا
 ہے۔ ذاکر اس کی بدولت ماسوا اللہ سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 سے متعلق ہو جاتا ہے ۛ

●
 اخذ فیض کے لئے عقیدت ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔
 ظاہری علوم کے لئے ۵ فیصدی استاد کا ادب اور ۵ فیصدی طالب علم
 کی محنت ہو تو ترقی ہوتی ہے فیض باطنی کے لئے ۱۰۰ فیصدی ادب
 کی ضرورت ہے ۛ

●
 اللہ کے پاک نام میں بے شمار برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی
 برکت یہ ہے کہ انسان ماسوا اللہ سے کٹ جاتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ
 تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کریں اور ہمارے پاس کوئی نہ آئے اگر آئے تو
 جلدی اٹھ جائے۔ کوئی آئے تو دل گھبرائے جتنا دل گھبرائے گا اتنا درد

بلند ہوگا :

ذکر الہی میں وہ لذت آتی ہے کہ تاج شاہی سر پر رکھوا کر اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بادشاہوں کو نہیں آتی :

مریضوں کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک علاج دوسرا پیرمیز جہالت اور غفلت بہت مہلک بیماریاں ہیں۔ خدا یاد نہ کیا تو مرنے کے بعد یہ بیماریاں ساتھ چائیں گی اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گی۔ حشر میں بھی تڑپائیں گی اور اس کے بعد جہنم رسید کرائیں گی۔ غفلت اور جہالت وق سے بھی زیادہ مہلک ہیں۔ وق کا مریض زندگی میں تڑپتا ہے مرنے کے بعد سب تکالیف دور ہو جاتی ہیں :

اللہ کا ذکر علاج ہے مشتبہ اور حرام مال سے بچنا پیرمیز ہے۔ حرام کھانے سے عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ حرام کی تمیز عام لوگوں کو نہیں ہے حرام دو قسم کا ہے۔ ظاہری اور باطنی۔ عوام تو فقط ظاہری حرام حلال کی تمیز کر سکتے ہیں۔ باطنی حرام کی تمیز خواص کو ہوتی ہے۔ بکری حلال ہے لیکن چوری کی ہو تو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ باطنی حرام ہے۔ خواص کو اس کی بھی تمیز ہوتی ہے :

اگر ایک بازار میں عورت کسی دوکاندار کو اپنی حرام کی کمائی کا پانچ روپے کا نوٹ دے کر کچھ سودا خریدے اس کے بعد دوسرا گاہک دس روپے کا نوٹ دے کر کچھ سودا لے اور باقی رقم میں اگر دوکاندار اس کو اس بازار میں عورت والا پانچ روپے کا نوٹ دے دے تو خواہ اس نوٹ کو دیکھ کر بتلا دیں گے کہ یہ حرام کی کمائی ہے یہ دراصل تزکیہ نفس ہی برکت ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے :

امراض روحانی کا علاج صحبت شیخ کے سوا کچھ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے یہ دور نہیں ہوتے۔ دینی مدارس میں کتابوں پر عبور ہو جاتا ہے مگر تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لئے علماء کی بھی کماحقہ اصلاح نہیں ہوتی :

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ہر کافر فرنگ ملحد اور زندیق کو انسان اپنے سے بدرجہا بہتر سمجھے :

مسلمانوں کی موجودہ بے دینی کا ۸ فیصد اکل و شرب حرام و مشتبہ مال ہے۔ دس فیصد بے نمازوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزوں کا کھانا ہے اور باقی دس فیصد بے دینوں اور نااہلوں کی صحبت ہے :

قبرِ آخرة کی ڈیوڑھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کسی کی قبر بہشت کا باغ اور کسی کی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ شیخ کامل اس کو بہشت کا باغ بنانے والے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے میں اگرچہ بہت گنہگار ہوں۔ اس کے باوجود بھی میری کچھ ذمہ داری ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں میں جب اپنے احباب کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ گنہگار ہیں اور میں پاکباز ہوں میری پوزیشن سرکاری وکیل کی سی ہے جو ملزم پر پوری طرح تنقید کرتا ہے :

انسانیت کا یہ منشاء نہیں کہ انسان ہر چیز میں مالکانہ تصرف کرے کسی پر سواری کرے کسی کو بغیر ذبح کئے چاقو سے کاٹ کر کھا جائے۔ اور آپ بول و براز کی مشین ہی بنا رہے۔ اگر بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو یاد رکھ اے انسان تو کتے، سور اور گدھے سے بدتر ہے۔ وہ مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے وفادار ہیں۔ اور تو مالک حقیقی کا غدار ہے :

بیعت کے بعد شیخ پوچھے گا کہ بیٹا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میں پولیس کا سپاہی ہوں۔ اس کے بعد شیخ دریافت فرمائے گا۔ کہ تنخواہ کیا ملتی ہے اور بالائی آمدنی کتنی ہے وہ عرض کرتا ہے کہ تنخواہ الاؤنس مبلغ ۷۵ روپے ہے اور بالائی آمدنی مبلغ ۱۶۰ روپیہ

ہے۔ شیخ ایک طرف استغفار پڑھوائے گا اور دوسری طرف حرام چھڑا
 دے گا۔ اس کے علاوہ بارگاہِ الہی میں دعا کرے گا۔ کہ اے اللہ تیرے
 ایک بھولے بھٹکے بندے کو میں نے تیرے دروازے پر لاکھڑا کیا۔ تو
 اس کو اپنی رحمت سے نوازا۔ انشاء اللہ پیرا پار ہو جائے گا۔ پہلے حرام
 کھاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یو آتی تھی۔ اب حرام چھوڑ کر استغفار پڑھنے
 لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے اور اس کے فضل و کرم سے
 اللہ کے دروازہ پر آنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اب شیخ کے دریافت فرمانے
 پر عرض کرتا ہے کہ حضرت اب تو مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا :



انگریزی دانوں کو توجانے دیجئے۔ ان کے نصابِ تعلیم میں کتاب و
 سنت کا نام ہی نہیں ہے اب یہ کچھ ان دونوں کا نام لینے لگے ہیں
 مگر قرآن سے ڈرتے معلوم ہوتے ہیں۔ مدارس عربیہ کے فارغ التحصیل
 حضرات کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ ان میں سے بعض کو علم ہوتا
 ہے مگر صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ حسد کبر۔ عجب۔ جاہ طلبی وغیرہ
 روحانی بیماریاں ہیں جو شیخ کابل کی صحبت میں دور ہوتی ہیں :



کسبِ معاش کے لئے آپ جو کام چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا
 چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تو جسم کو غذا کھلاتا ہے۔ تو روح کو
 بھی غذا بہم پہنچا۔ یعنی نماز بھی ساتھ پڑھ لے۔ پہلے لوگ شام کو

وانے بھنا کر کھاتے تھے۔ اب اس وقت چائے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ذکر الہی کا پانچ وقتہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ نبھتا جائے۔ جب مغرب کے وقت دکان کا دروازہ بند کیا۔ تو پاس ہی مسجد میں جا کر اگر نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ رات کو سونا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے موت ہی آجائے۔ اس لئے رات کو نماز پڑھ کر سوئیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رہے یہ اللہ کے بندوں کا پروگرام ہے :



اللہ کے ذکر کی برکت سے فاکر کو فرحت چین اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ وہ روح اور جسم دونوں کے پروگرام پر عمل کرے گا۔ اس لائن پر چلنے والے بڑے خوش نظر آتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وال روٹی مل رہی ہے اس کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں۔ چین کے پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں ان سے پوچھا جائے تو جواب دیں گے هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ پيٹ کا دوزخ اللہ کے نام سے بھرتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ ہو تو پھر پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا اور هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ کی صدا دیتا رہتا ہے :



آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں اچھی اور بری صحبت کے نتائج کو واضح فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے

جیسے عطر فروش کی دکان ہو۔ جو شخص اس دکان میں جائے گا تو وہ اگر عطر
 نہ بھی خریدے گا تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور سونگھے گا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بڑی صحبت کو لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دی ہے ایسی دکان میں
 جانے والا اگر کچھ لے گا نہیں تو کپڑے ضرور جلا کر آئے گا۔

اولیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشین ہوتے ہیں ان کی
 دو قسمیں ہیں (۱) علمائے کرام (۲) صوفیائے عظام۔ علمائے کرام حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کتاب حکم کا فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی حضرت نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشین ہیں۔ صوفیائے عظام تزکیہ کا فرض ادا کرتے
 ہیں۔ وہ قرآن کا رنگ چڑھاتے ہیں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مسند نشین ہیں۔

نیکے اور بدی کی سمجھ بھجی سیکھے بغیر نہیں آتی۔ ہماراں عام طور پر نیک کی
 تعریف یہ ہے کہ لٹیں بڑھتی ہوں اور گیرومی رنگ کے کپڑے
 زیب تن ہوں۔ ایسے شخص کو نیک کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سراپا
 شیطان ہو۔

نیک کے لئے سب سے پہلی شرط اتباع شریعت ہے جو متبع
 شریعت نہیں اسے ہم نیک نہیں کہہ سکتے اور وہ شخص کم از کم مسلمانوں

کاندہبی مقتدر نہیں ہو سکتا :

ملکت مدینہ تک اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو تو روحانی امراض سے شفا ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ** — **وَاصْبِرْ أَمْرًا صِیغَةً** ہے اور الامر للوجوب عندنا عند الاحناف) یہ وہ حضرات ہیں جن کی زندگی کا مقصد نہ زیب و زینت کرنا، نہ ڈگریاں حاصل کرنا، نہ گریڈ بڑھانا، نہ تجارت کو فروغ دینا اور نہ زمین کا رقبہ بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ صرف ذکر الہی اور خلق خدا کی اصلاح میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں یہ ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ جو شخص صبح و شام یا دلہی کرے گا۔ وہ باقی اوقات میں بھی اس سے غافل نہ رہے گا۔ اگر گناہوں طرف سے بیٹھا ہوگا۔ تو درمیان میں سے بھی ضرور بیٹھا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ چونکہ فلاں شخص چیف انجنیر ہے اس لئے میں بھی چیف انجنیر بن جاؤں۔ فرماتے ہیں تیری آنکھوں کی ٹکٹھکی اسی قسم کے اللہ والوں پر لگی رہے :

حقیقت میں انسان روح کا نام ہے انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والوں کا سارا جسم پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک موجود ہوتا ہے مگر گھروالے اس کو جلد ہی قبر تک پہنچاتے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ماں روتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا۔ بیوی روتی ہے کہ میرا خاوند مر گیا۔ بچے روتے

ہیں کہ ہمارا ابا مر گیا۔ مر کون سی چیز گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو روح تھی۔
وہی انسان تھا۔ جو چیز نظر آتی تھی۔ یہ انسان کی لاش ہے ۛ

پہلے زمانہ میں عورتیں اپنے لڑکوں سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا عمر رسیدہ لوگوں
کے پاس بیٹھا کرو۔ تاکہ وہ جب اپنے تجربات بیان کریں تو ان کو سن کر تمہیں
عقل آئے ۛ

بعض اوقات درخت کی جڑ خشک ہو جاتی ہے۔ مگر تنے پتے اور
شاخیں سرسبز ہوتی ہیں۔ مالی ایسے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور
اس کی جگہ ایک ٹہنی لگا دیتا ہے جو کئی سال بعد درخت بنے گی ۛ

ہم مطلق تصوف کے قائل نہیں ہم تو اس تصوف کے حامی ہیں جس کا
ماخذ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو صوفی یا عالم اللہ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کی طرف دوڑتا نظر آئے گا۔ ہم تو اس کے
پیچھے دوڑیں گے۔ بعض مسلمانوں کو پیر ایسے ملتے ہیں جو پاؤں میں گھنگھرو
باندھ کر اپنے مریدوں کو پچاتے ہیں۔ اس قسم کے پیروں کی صحبت میں عبادت
کی توفیق بھی نہیں رہتی ۛ

یہ یاد رکھئے کہ علم اور چیز ہے اور تربیت اور چیز ہے۔ امراض روحانی

کافقظ ایک علاج ہے اور وہ اللہ والوں کی صحبت ہے ان کی صحبت میں اللہ کے پاک نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں :

میرے عمر دس سال کی تھی جب میں نے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ میری بیعت کے بعد چالیس سال زندہ رہے حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے جو انی کے بعد بیعت کی تھی۔ دونوں نے مجھے اللہ کا نام بتلایا اور دوسروں کو بتلانے کی اجازت مرحمت فرمائی اس لئے ان دوستوں کی رہنمائی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے :

میرے درس میں بعض میرے مخالف بھی آتے تھے اب بھی آتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میری ہی تو بات سن کر جاہل گے۔ مولوی حسنت علی اہل قرآن کے امام تھے۔ جب کبھی تشریف لاتے تو میں ان کو ادب سے بلا کر اپنے پاس بٹھلاتا۔ کیونکہ وہ میرے باپ سے بھی بڑے تھے۔ وہ مجھے اور ہمارے بزرگوں سب کو کافر کہتے تھے۔ میں نے ان کو الحجر کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن در کس میں سنایا۔ اخلاق اور چیز ہے اختلاف رائے اور چیز ہے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ کافر سے بھی حسن سلوک کرو :

الحمد للہ آپ آجاتے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری کو نبھا دیتا ہوں۔ ایسے موقعہ پر میرا خاموش رہنا میرے لئے گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میرے پاس اسی لئے بھجو آتا ہے کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کروں۔ مجھے اپنے حضرات کے جوتوں کے صدقے یہ دولت نصیب ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا ۛ

موتی ملنے انڈاں مگر اللہ والے موتیوں سے بھی زیادہ گراں ہوتے ہیں ان کے جوتوں کے تلے کی خاک کے ذروں سے وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی بھی محمود اور موت بھی محمود۔ ان کی صحبت اور اکل حلال نصیب ہو تو موت محمود حاصل ہو جاتی ہے۔

اگر ایک شخص سفوف سمجھ کر سنکھیا کھالے۔ تو بے شک وہ خود کشی کا مجرم تو نہ ہوگا مگر سنکھیا موت کا پیغام تو ضرور لائے گا۔ اسی طرح چوری کی بکری کا گوشت کھا لیا تو اس کا اثر تو ضرور ہوگا ۛ

سیبوی عمر ۷۵ سال کی ہے آپ سب سے میں عمر میں بڑا ہوں۔ میں نے اپنے حضرات کے ہاں یہی دیکھا ہے وہ اللہ اللہ کرنے والی جماعت کو پھیکا بھٹا دیتے تھے وہ اس کو تارے پلاؤ کہتے تھے۔ حضرت ذین پوری اور دادا پیر کے ہاں یہی دستور تھا۔ پھیکا بھٹا کھانے والوں کو اسی سے لذت آتی

تھی یہ حلال کماٹی والوں کے نذرانوں سے تیار ہوتا تھا۔ دنیا داروں کے نذرانے الگ رکھے جاتے تھے۔ وہ جب کبھی آتے تو ان کو ان نذرانوں میں سے کھلاتے تھے۔ دنیا دار اللہ والوں کے دروازہ پر اپنی ضرورتوں کے لئے آتے ہیں۔ اللہ اللہ سیکھنے کے لئے نہیں آتے:



سبزی حرام کی پھل حرام کے۔ آٹا حرام کا ہوتا ہے اگرچہ مسلمان ان چیزوں سے بچنے کا مکلف نہیں۔ لیکن اثر تو ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بے دینی عام ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب اکل حلال کا نہ ہونا ہے۔ فریب۔ دھوکہ بازی، بددیانتی وغیرہ عام ہیں۔ اس کا فقط ایک علاج ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے پھر وہ جو کھلائیں کھائے اور جس سے منع کریں اس سے رک جائے:



میں سے آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ گناہوں کا ایک بورڈ بنا لیجئے میں نے بھی بنایا ہوا ہے۔ جو گناہ بھی ہو اس پر لکھ لیا جائے۔ اس سے ہم اپنے نفس کو ڈانٹ سکیں گے۔ کہ تو یہ ہے اگر یہ تیرے گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کوئی تیرے منہ پر تھوکتا بھی پسند نہ کرے گا:



ہر شخص غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، دل کا چین چاہتا ہے۔ چین کو عربی میں اطمینان کہتے ہیں۔ زمیندار سمجھتا ہے کہ زمین کے زیادہ

زیادہ رقبہ پر قبضہ جانے میں دل کا چین ہے۔ بیزاڑ سمجھتا ہے کہ اپنی دکان میں زیادہ سے زیادہ مالیت کا کپڑا جمع کرنے میں چین ہے۔ ملازم پیشہ گریڈ بڑھانے کو چین کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ شادی شدہ شادی کے بعد اولاد کے ذریعے دل کا چین تلاش کرتے ہیں یہ سب راستے غلط ہیں۔

اللہ کا ذکر بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودوں کی جڑوں کو اپنی چھاتی کے اندر کھینچ کر رکھتی ہے اور شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں تو ترقی ہوتی ہے اگر کسی سے اللہ کا نام سیکھا جائے اور پھر اندھیری کو ٹھٹھری میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے۔ ذکر الہی کیا جائے تو وہ لذت آتی ہے۔ جو بادشاہ کو سر پر تاج شاہی رکھوا کر اور لاکھوں فوج دجو اس کے ابرو کے اشارہ پر کٹ مرنے کو تیار ہو رکھ کر بھی نصیب نہ ہو گی۔

بیو کے چاہتی ہے کہ لڑکی ٹڈل سے میٹرک میں داخل ہو جائے اور پھر ایف اے اور بی اے ہو جائے تاکہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ وہ خاوند کو کسی نہ کسی طرح رضا مند کر لیتی ہے۔ یہ فکر نہیں کہ اس کا ایمان بھی بچ جائے یہی حال لڑکوں کا ہے۔ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی بی، اے

ہو جائیں ان کے ایمان کو سچانے کی فکر نہیں کرتیں۔ خود لڑکے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تمام اخراجات والد سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ کیا اسکولوں اور کالجوں میں دین سکھایا جاتا ہے؟ پورا دین نہ سہی کیا، کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے؟

●
 صیغے اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں بلکہ اس طریق تعلیم کا مخالف ہوں۔ اور اس تعلیم کے ذریعے اثرات سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے اگر آپ استاد رکھ کر ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دلا سکتے تو ان کو چھٹیوں میں درس ہی میں لائیے جمعہ میں بارہ ماہ برابر لائیے۔ لڑکوں کو جمعرات کے دن دیکھیں لائیے لڑکوں اور لڑکیوں کو سکولوں اور کالجوں میں ایمان نہیں سکھایا جاتا تب ان کو آپ مغربی تعلیم دلا کر خوش رہیں مگر قیامت کے دن آپ روئیں گے میں چونکہ اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں اس لئے ۲۵ سال سے میں انجمن حمایت اسلام کی بہت سی کمیٹیوں کا ممبر ہوں میں کالج کمیٹی کا بھی رکن ہوں۔ میں اتنی ترمیم چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہونی چاہیے انگریزوں کے زمانہ میں یہاں شطرنج سیاست پر کھیلنے کے لئے ہندو اور سکھ کے مقابلہ میں ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ بیرسٹر۔ ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ کی ضرورت تھی۔ اب وہ بے ایمان نہیں ہے تو بھی ہم کو ان کی جگہ پر کرنے کے لئے ان ماہرین کی ضرورت پڑے گی۔ میری شکایت ان احباب کے متعلق ہے جو

اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے
 دینداروں کے گھروں میں بے دینی عام ہو رہی ہے :

میرے عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا
 کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہرگز ہرگز اپنے آپ کو آپ میں سے
 کسی سے بہتر نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے کہ میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں
 یہ میرا حال ہے اور یہ نعمت مجھے اللہ کے فضل اور اپنے بزرگوں کی برکت
 سے نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں
 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے بزرگوں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ
 میں دوسروں کو اللہ کا نام لیا سکاؤں۔ میں کسی کو نہیں بلاتا جو پوچھتا ہے
 اسے بتلا دیتا ہوں۔ میں اپنے شیخ کی طرف سے وکالتاً اللہ کا نام بتلاتا
 ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جن احباب کا مجھ سے تعلق ہے ان کی رہنمائی
 کروں۔ تاکہ ہم سب اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں :

میرا جمعہ کا خطبہ پہلے روزنامہ "نوائے پاکستان" لاہور میں چھپتا
 تھا اب ہفتہ روزہ "خدا م الدین" لاہور میں چھپتا ہے۔ بعد ازاں یہ کتابی
 صورت میں بھی چھپتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ یہ نعمت غالباً
 مغربی پاکستان میں میرے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انگریز مجھے
 دہلی سے لایا تھا میں اس زمانہ میں صوف کی غزنی عبا پہنا کرتا تھا۔ اوپر

میرے عربی عبا تھی۔ اور اندر ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، مجھے وہلی سے
 گوشتا کر کے پہلے شملہ کی حوالات میں رکھا گیا۔ پھر مجھے لاہور لائے۔ تو
 خان بہادر عبدالعزیز سی آئی ڈی والوں کے حکم سے نو لکھا کی حوالات
 میں رکھا گیا اس طرح کی بے سرو سامانی کے باوجود میں اللہ سے خوش ہوں
 کہ اس نے مجھے دین کی بہت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اہالیانِ
 لاہور سے بھی خوش ہوں کہ ان کو اللہ نے میری آواز پر لبیک کہنے کی توفیق
 عطا فرمائی۔ اگر میں آج مرجاؤں تو میری طبع شدہ چیزیں اتنی ہیں کہ جن کی
 برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمادیں گے۔



اسلام کے سوا سب مکان کی صفائی کرتے ہیں۔ اسلام مکین کی صفائی کرتا
 ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مکان صاف ہو تو اس میں اڑوہا یا بازاری
 رنڈی ڈیرہ لگائے تو کیا کسی کے نزدیک بھی اس مکان کی کوئی عزت ہو
 گی۔ سرگرت نہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی پر کھجور
 کی چھڑیوں کی چھت تھی۔ اس کے باوجود اس کی کتنی عزت تھی اگر مسجد
 خواہ کچی ہو اس کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ہے جس کی نظر کیمیا اثر ہے تو
 اس کی ایک نظر پڑ جانے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اس کی جوتیوں میں
 بیٹھنا دنیا دار کے لئے باعثِ فخر ہے۔



جس مکان ہے اور اس کے اندر روح مکین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ

روح کی تہذیب کرو۔ دنیا جسم کی تہذیب کرتی ہے اگر بال بکھرے ہوئے
 نہ ہوں۔ بلکہ کنگھی پٹی کی ہوئی ہو۔ کپڑے صاف ہوں۔ بوٹ پالش شدہ
 ہو تو دنیا کی نظر میں ایسا شخص تہذیب ہے گویا ان کے نزدیک عورت کا معیار
 دولت ہے بھنگی کے پاس دولت ہے تو وہ ان کی نظر میں معزز۔ کیونکہ وہ
 فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں سفر کرتا ہے۔ سید کے پاس
 اگر دولت نہیں تو وہ تھرڈ کلاس میں سفر کرے گا۔ وہ ان کی اصطلاح میں
 جنٹلمین نہیں۔ اس مجلس ذکر کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جسم کی بجائے روح
 کی تہذیب کریں۔

روزانہ ہمارے سامنے کئی جنازے نکلتے ہیں لیکن ہم پھر بھی نہیں
 سمجھتے کہ مکان کی صفائی ضروری نہیں لیکن صاف ہونا چاہیے۔ یعنی جسم غبار
 آلودہ اور کپڑے پھٹے پرانے ہوں تو کوئی پرواہ نہیں۔ مگر روح تہذیب ہونی
 چاہیے۔

بعض دنیا دار خاندانوں میں کچھ رسمیں باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں حالانکہ
 وہ سراسر غلط ہیں۔ اگر کوئی ان سے یہ رسمیں چھوڑ دانا چاہے تو نہیں چھوڑتے
 بلکہ نہ کرنے والوں پر اطمینان کرتے ہیں۔ گویا ان پر بھند مہر ہیں مثلاً شادی
 کے موقع پر باجا بجانا۔ دولہا کا سسرال کے گھر گھوڑی پر چڑھ کے جانا
 سہرا باندھنا اور تہذیبی لگانا وغیرہ وغیرہ یعنی اسی طرح بعض دیندار

خاندانوں میں بھی ایسی رسمیں چلی آرہی ہیں جو خلاف شرع ہیں ۛ

بزرگانے سلف کا یہ ادب نہیں کہ ان کے مزارات پر پھولوں کی چادر لے
جا کر ڈال دی جائے یا طلبہ بچانے والوں کو بلا کر قوالی کرا دی جائے یا
بھنڈا راپکا کر کھایا جائے ۛ

مدینے فقہ میں حضرت امام اعظمؒ اور طریقت میں حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانیؒ کا تتبع ہوں۔ گویا کہ میں حنفی بھی ہوں۔ اور قادری بھی ہوں۔
اگر ہمارے بھائی غلط رسموں کو امام اعظمؒ یا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے
ثابت کر دیں تو میں ان رسموں کی مخالفت چھوڑ دوں گا۔

نہار کے بعد سنت طریقہ ہے کہ استغفار۔ آیتہ الکرسی۔ ۳۳ دفعہ
سبحان اللہ۔ ۳۳ دفعہ الحمد للہ۔ ۳۳ دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا
اللہ یا ۴۴ دفعہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اس کے مقابلہ میں لاہور میں کیا ہوتا
ہے۔ وہ بھی سینٹے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بلند آواز سے درود شریف
پڑھتے ہیں۔ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ درود شریف کا کون منکر ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز اپنے اصلی
مقام پر ہی صحیح ہوتی ہے۔ درود پڑھنے کے بھی اوقات اور مواقع ہیں۔ اگر نماز
میں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص کی بجائے درود شریف پڑھا جائے تو نماز نہ

ہوگی بشرعیت کے مالک آسمان پر اللہ تعالیٰ اور زمین پر حضور سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جس جگہ جو کچھ پڑھنے کا حکم
 دیا ہے اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ امام اعظم کے
 مذہب میں ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا اس صورت میں منع ہے
 کہ اس سے نمازی کی نماز یا ذکر کے ذکر میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو میرا اپنا
 تجربہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایسی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کا موقع
 ہوا جس میں بلند آواز سے درود شریف پڑھا جاتا ہو۔ اور اگر ایک یا دو
 رکعت باقی ہوں تو میں خود کبھی کبھی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھول جاتا
 ہوں۔ یہ نہ حنفی ہیں نہ قادری اور یہ نہ حضور اور نہ صحابہ کرام کے تابع
 ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو درود شریف پڑھنے سے گولی
 لگتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے دس
 نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور
 دس دفعہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے ۛ

کیا خواجہ حضرت علی ہجویریؒ یہ سکھلا گئے ہیں کہ میری قبر پر پھولوں کی
 چادر چڑھانا۔ گلے میں پیسے ڈالنا۔ یہ ان کا ادب نہیں بلکہ ان کا ادب یہ
 ہے کہ ان کے طریقہ کو زندہ کیا جائے میں ان کو بہت بڑے اولیاء کرام میں
 سے سمجھتا ہوں اور کبھی کبھی فاتحہ خوانی کے لئے ان کے مزار پر بھی جاتا
 ہوں ۛ

مزارات پر پھولوں کی چادریں چڑھانے والوں سے اگر آپ کہیں کہ
اس کی بجائے اگر کسی غریب مسکین بیوہ یا یتیم کو دو روپے دے دیں۔ تو
یہ زیادہ اچھا ہے اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو پہنچا دیں۔ تو وہ
ہرگز نہ مانیں گے اس لئے کہ اس میں کوئی نام و نمود نہیں ہے ہر نیکی کا
کام کر کے اگر میت کی روح کو ثواب پہنچایا جائے تو جائز ہے اس کا ثواب
میت کو پہنچتا ہے۔ مگر اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔

۱۔ نیت میں اخلاص ہو۔ یعنی صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ غیر اللہ کی رضا
کا شائبہ بھی نہ ہو۔

۲۔ مال حلال کا ہو اگر حرام کا مال ہو گا تو نیت کو ایک دانہ کا بھی ثواب نہ
پہنچے گا۔

۳۔ مستحقین کو کھلایا جائے

ناز نفل۔ روزہ نفل۔ حج نفل اور صدقات و خیرات کا ثواب پہنچتا
ہے۔ عام طور پر نہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے نہ مال حلال کا ہوتا ہے۔
اور نہ مستحقین کو کھلایا جاتا ہے۔ برادری یا بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر
کھلایا جاتا ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے کہ باپ کو اچھی طرح سنبھالا۔



اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی شکل و صورت تو یہی ہوتی ہے مگر اندر کچھ
اور ہی ہوتا ہے۔ فرعون اور موسیٰ کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی
فرق نہ تھا۔ مگر اندرونی استعداد کے لحاظ سے اگر لاکھوں فرعون

بھی ذبح کر دئے جائیں تو وہ سب موٹی کے جوتے کے تلوے کے ایک ذرہ
برابر بھی نہیں ہو سکتے ۛ

طمع۔ منع اور جمع ان تینوں کی نفی کا نام فقر ہے ۛ

شادی کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ عیش شہر و غم دہر یعنی ایک ماہ
کے عیش کے لئے ساری عمر کا غم مول لینا شادی ہے گو یا ہر راحت میں رنج ہے
راحت اور رنج دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک ذکر الہی ایسی چیز ہے جس میں رنج
نہیں ہے جتنا زیادہ کرتے جائیے اتنی زیادہ راحت ہوگی اور رنج کم ہوتا جائے
گا۔ اولاد نہیں تو غم، اولاد ہو تو غم، ایک بیٹا تھا تو غم تھوڑا تھا۔ دو ہوئے تو
غم زیادہ ہو گیا۔ اس کے مقابلہ میں اللہ کا نام جتنا بڑھتا جائے گا غم گھٹتا
جائے گا۔ باقی چیزیں جتنی بڑھیں گی اتنا ہی غم زیادہ ہوتا جائے گا
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

کامل کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے ان کے کمالات کا عکس
پڑتا ہے۔ کوئی فن ایسا نہیں جو ماہر فن کے پاس ایک دو دن بیٹھنے یا کبھی
کبھی اس کی ملاقات کرنے سے حاصل ہو سکے۔ کیا درزی، پڑھتی، لوہار،
معمار وغیرہ کا کوئی بھی فن ایسا ہے جو مدت مدید کی صحبت استاد کے بغیر
حاصل ہوتا ہے، نہیں بہرگز نہیں۔ آپ جس عقل سے دنیا کے کاموں میں

چلتے ہیں۔ اسی عقل سے دین کے معاملہ میں کیوں کام نہیں لیتے جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے اس کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے رنگ چڑھ جاتا ہے۔ دینی علوم و فنون میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کثرتِ اکتساب و کچھ زبان سے بیان فرما کر سکھاتا ہے اور کچھ اپنی عقل سے۔ روحانی تربیت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کامل کبھی کچھ ارشاد فرما کر اور کبھی اپنے عمل کے ذریعہ طالب کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان صِغَرِ الْوَجْهِ کو سالم ہو جاتا ہے بشرطیکہ کامل کے ساتھ عقیدت ادب اور اطاعت ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں۔ مگر جن کے اپنے اندر ایمان نہ تھا۔ آنحضرت سے عقیدت نہ تھی۔ اور ادب اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ آپ کی صحبت بھی ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی۔

تہیدستانِ قسمتِ راجہ سودا ز ر، سردارِ کامل
کہ خضر از آبِ حیواں نشنہ مے آرد سکندر را



صبر سے ان گنہگار آنکھوں سے اپنے دونوں مربیوں کے ہاں یہی دیکھا کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کرنے والے چند دنوں میں چھو لیاں بھر کر لے گئے۔ اور جنہوں نے عقیدت، ادب اور اطاعت نہیں کی وہ ساری عمر صحبت میں رہ کر بھی محروم رہے۔ اینٹ اگر بھٹہ میں ڈالی جائے اور نہ پکے تو وہ پٹی کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پٹی سے کچی اینٹ اچھی ہوتی ہے۔ کہ وہ پینہ کا مقابلہ پٹی سے زیادہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے ہاں لے جائیں۔ تو

وہاں سے پک کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

جو لوگ حضور کا ادب نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اکر پڑتے ہیں۔ اور ہدایت کی بجائے گمراہی کے راستے کو اپنا مسلک بناتے ہیں وہ متکبرانہ الفاظ کہہ کر ہدایت کے راستے سے بھاگتے ہیں۔ مثلاً اگر وعظ و نصیحت کی مجلس ہو۔ اور ان سے شمال ہونے کے لئے کہا جائے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اگر کوئی گویا آجائے تو خود کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلنا:

ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی زندگی کے لئے دو جہان ہیں۔ ایک یہ جس میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ جس میں مرنے کے بعد قدم رکھنا ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ دوسرے جہاں کے پھر دو حصے ہیں ایک حصہ قبر میں دفن ہونے کے بعد میدانِ محشر میں کھڑے ہونے تک اور دوسرا حصہ میدانِ محشر سے شروع ہو کر ابد الابد (ہمیشہ ہمیشہ) تک۔

میں سے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی زندگی خوشگوار بنانا چاہے۔ وہ قرآن مجید کو اپنا دستور العمل بنائے اور جس طرح قرآن مجید ہر معاملہ میں رہنمائی فرمائے اسی طرح ہر معاملہ کو درست کرتا جائے انشاء اللہ یقیناً دنیا بھی اس کے لئے راحت کا گوارہ بن جائے گی اور آخرت میں بھی بہتری کی توقع ہو جائے گی:

ہر کامل سے ہر طالب فیض نہیں اٹھا سکتا اس لئے کہ عقیدت۔ ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے ان کے بغیر ساری عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم جانے والے ان گنہگار آنکھوں نے دیکھے ہیں:



بعض بے سمجھ کہہ دیتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے۔ یہ لوح محفوظ سے آیا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین:



یہ مسجد آپ کا مرکز ہے میرے باہر جانے کے بعد مقامی حضرات کو چاہئے کہ مرکز کو اسی طرح آباد رکھیں۔ اگر گھر کا بڑا سفر پر چلا جائے یا مر جائے تو کیا باقی گھر والے گھر چھوڑ جاتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ پہلے اسی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث آئین یا بھر کہتا تھا تو حنفی اس سے لڑتے تھے شب برات پر یہاں چراغاں ہوتا تھا۔ میں سب کچھ دیکھتا اور خاموش رہتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتا رہتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ! تیرا قرآن خود بخود راستہ بنائے گا:



۳۹ سال سے میں اسی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ وہلی میں میرے استاد حضرت مولانا عبد اللہ سندھی نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ کہ میں اپنی زندگی اشاعت قرآن کے لئے وقف کروں۔ الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے

اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دہلی میں انہوں نے پانچ علماء اور پانچ گریجویٹوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ ان پانچ علماء میں ایک میں تھا:

انگریز مجھے دہلی سے ہتھکڑی لگا کر لایا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کر کے لاہور رکھا۔ اگر میرا اپنا اختیار ہوتا تو میں دہلی یا سندھ جاتا۔ لاہور کبھی نہ رہتا۔ انگریز شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کا لاہور میں کوئی حامی و مددگار نہیں اور یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کر مر جائے گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے سینہ میں قرآن ہے۔ قرآن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ آج میں آپ سے خاٹہ خدا میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ مرتے دم تک اسی محمدی اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے اور اس کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے اسی کی طرف میں آپ کو بلاتا رہا ہوں۔ جو علمی طور پر خدمت کر سکتے ہیں وہ درس قرآن دیں:

مجھے استاد مولانا سندھی لے اور شیخ امر دہلی۔ ان حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت قرآن کی توفیق دی۔ میں ہزاروں کو قرآن پڑھا چکا ہوں ان کے علاوہ ایک ہزار سے زائد عالم درجِ حبسٹر ہیں:

پہلے اس مسجد میں دن کو گیدڑ جوتیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک یہ گنہگار بندہ آکر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں منگل بنا دیا۔ بڑے بڑے بادِ مخالف

کے جھونکے آئے اور گزر گئے۔ آخر میں میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرکز عطا کر رکھا ہے اس سے وابستگی کو اپنے لئے لازم سمجھئے۔

عجب، کبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہیں۔ یہ نعمت اللہ والوں کے ہاں سے ہی ملتی ہے۔ دوسری کسی جگہ سے نہیں ملتی۔ عطر عطر فروش کی دکان سے ہی ملے گا۔ بزاز کے ہاں سے نہیں ملے گا۔ ہم اللہ کے دروازے پر کچھ لینے آتے ہیں۔ یہاں جو کچھ ملتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں ملتا۔ یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ یہاں ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت نصیب ہو گئی تو یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ حشر میں بھی کام آئے گی۔ اس کے بعد جنت میں پہنچائے گی۔

میں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میری حیثیت ایک پوسٹ مین کی سی ہے۔ منی آرڈر بھیجنے والے اور وصول کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ پوسٹ مین تو دونوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ اور حضور کی طرف سے آپ کی رہنمائی کے لئے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہاں لاتے ہیں اور وہی بولنے کی توفیق دیتے ہیں۔ میں کچھ پڑھ کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں۔ زبان سے کہلو اور دیتے ہیں۔

کیا اللہ تعالیٰ کو بندے کے کتھرے چاہئیں؟ کیا اس نے جنتِ خبیثوں کے لئے بنائی ہے۔ وہ تو بہت نازک مزاج محبوب ہے۔ ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے؟



بعض عورتیں ایسی عفت مآب ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سایہ کو بھی غیر مرد سے چھپاتی ہیں۔ چنانچہ وہلی میں پرانے زمانے کے شرفاء کے ہاں یہی تمدن تھا۔ کہ عورتیں ڈولی میں گھر سے باہر جاتی تھیں۔ کہا رڈولی کو ڈیوڑھی میں رکھ کر باہر چلے جاتے تھے۔ عورت تیب اندر بیٹھ جاتی۔ تو وہ اندر آجاتے۔ اور ڈولی اٹھاتے جس گھر میں جانا ہوتا تھا۔ وہاں بھی لے جا کر اسی طرح ڈیوڑھی میں رکھ کر باہر چلے جاتے تھے۔ تو عورت ڈولی سے نکل کر اندر چلی جاتی۔ اب تو جس نے ایمان بچانا ہو وہ آنکھیں نیچی کر لے۔ نوجوان لڑکیاں ہار سنگار کر کے بے پردہ ہر جگہ لوگوں کے ایمان خراب کرتی پھر رہی ہیں؟



صبر سے آپ سے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ گورنمنٹ کے ہر حکم میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ مگر طوطی کی نقار خانے میں کون سنتا ہے۔ ان کی تعداد و بمشکل ستوں میں سے پانچ ہوگی؟



باطح میں طیب اور خبیث کی تیز نقط اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ اگر کسی طالب صادق کو شیخ کاہل مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا فضل

شامل حال ہو جائے۔ تو یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے عرصے کے بعد یہ تمیز پیدا ہوگی۔ بکری چوری کی ہو۔ اور آپ قصاب سے پیسے دے کر اس کا گوشت لائے جن اللہ والوں کو یہ تمیز عطا شدہ ہے وہ بتلا دیں گے کہ یہ گوشت حرام ہے۔ باطن کی آنکھوں سے اس حرمت کا پتہ چلتا ہے۔

قوانضے ایک شین ہے جس سے انسان کی زندگی کا کناٹا بدل جاتا ہے
کانٹا بدلنے والے اللہ والے ہوتے ہیں ۛ

میرے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حقیقت میں انسان روح کا نام ہے۔ اس گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام انسان نہیں ہے جسم انسان کا لفاظہ ہے۔ کھانا، پلٹا، سوخا وغیرہ یہ لفاظہ کی ضروریات ہیں موت کے وقت یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے ۛ

صحبت سے ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ کاشتکار تو زمین میں یکساں بیج ڈال دیتا ہے لیکن زمین اپنی استعداد کے مطابق اس کو اگاتی ہے۔ بیج کہیں کم اور کہیں زیادہ اگتا ہے ۛ

حقیقت تو شوں کی صحبت میں آہستہ آہستہ حقیقت کی عادت پڑ جاتی ہے
چلم بھر کر دینے اور حقہ چلانے سے کتنی بچے حقیقت پینے لگتے ہیں۔ اسی

طرح بھنگ نوشتوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اگر بڑی صحبت میں بیٹھ کر
انسان بد ہو سکتا ہے تو نیکیوں کی صحبت میں اس کے اندر نیکی کا رنگ پیدا ہو

گا۔



صیغے کہا کرتا ہوں کہ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو سبک پلیٹ فارم
پر آ کر اصلاحِ خلق خدا کا کام نہیں کرتے۔ ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذبہ
کرتا ہے۔ وہ بظاہر اس طرح رہتے ہیں کہ دنیا داران کے منہ پر تھوکتا بھی پسند
نہ کریں لیکن وہ گڈ می میں لغل ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اللہ والے لاہور میں
نہ ہوں تو کوئٹہ کی طرح لاہور ایک منٹ سے پہلے پھلے غرق ہو جائے چونکہ یہاں
کوئٹہ سے زیادہ آبادی ہے اس لئے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب
کو روکے رہتے ہیں۔



صیغے کہا کرتا ہوں کہ یہ اندھوں کا جہان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اندھے
سارے بیسنا کوئی براپ کہتے ہیں بیسنا سارے اور اندھا کوئی۔



حتمیا کے بڑے بڑے فلاسفوں اور عقلاء کی ڈگریاں قبر سے ورے
ورے کار آمد ہیں۔ اس کے بعد سب اندھے ہیں۔ دل میں ایمان ہو۔ اور
قرآن کے نور کا شرف نہ بنا کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو نظر قبر حشر بلکہ
اس کے بعد حنبت اور دوزخ پر ہوگی۔ پھر یقین ہوتا ہے کہ اگر گناہ کیا

تو قبر جنیم کا گڑھا بن جائے گی۔ حضور کے دروازے دھکے ملیں گے۔

عقل فقط حضور کے مبارک میں تھی جس کا آپ کے سینہ اطہر سے جتنا تعلق ہوگا۔ اس کو اتنی ہی عقل ہوگی۔ آپ کے بعد عقل فقط اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ تمہارے سلاطین۔ امراء۔ وزراء۔ بیسٹریٹ لاء۔ سب احمق ہیں۔ بد معاشریاں کرتے ہیں۔ مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی زندگی ہے۔ وارنٹ گرفتاری (یعنی موت) آیا تو سب شوخی اور شیخی کر کمری ہو جائے گی۔ ان کے مقابلے میں حضور کے دروازے کا غلام ہے جس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ عقل مند ہے۔

اپنا امتحان خود لیا کیجئے۔ کہ بیوی پیاری ہے یا خدا۔ اولاد زیادہ محبوب ہے یا خدا۔ افسر کا ڈر زیادہ ہے یا خدا کا۔ اگر اصلاح حال ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اور حضور کے مقابلے میں کسی چیز کی بھی پروا نہ ہوگی۔

اسکلورس۔ کالجوں۔ دفاتر اور عدالتوں میں چلے جائیے اور دیکھئے کہ مسلمان کی کیا حالت ہے۔ کوچ اور صوفہ سیٹ پیارے۔ بیوی پیاری۔ زنا اور شراب زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اور حضور کے حکم کی پروا ہی نہیں۔

ہر چیز کی ایک منڈی ہوتی ہے۔ ہدایت کی منڈیاں مساجد ہیں۔ یہ

بدبخت مسجد میں آنے اور ٹوٹی چٹائیوں پر سربسجود ہونے کو اپنی کسر نشان سمجھتے ہیں۔ اگر مسجد میں آنا ان کی کسر نشان ہے تو اللہ والوں کے جوتے کی کسر نشان ہے ان کی کوٹھیوں پر جانا۔ نعم الامیر علی باب الفقیر۔ عیش الفقیر علی باب الایمیر۔ تمہاری ہدایت کوٹھیوں میں نصیب نہ ہوگی۔ دروازہ الہی پر آؤ گے تو ہدایت نصیب ہوگی۔ تمہاری دروازہ الہی پر آنے سے عزت بڑھے گی۔ اللہ والوں کی تمہاری کوٹھیوں پر جانے سے بے عزتی ہو گی۔

دلے ٹھیک ہے تو سب اعضاء ٹھیک۔ دل بادشاہ ہے اور سب اعضاء اس کی فوج ہیں۔ دل حاکم ہے سب اعضاء اس کے تابع ہیں۔

عبدالاول بد قسمت وہ لوگ ہیں۔ جن کی عقل میں قرآن نہیں آیا۔ نمبر دوم بد قسمت وہ لوگ ہیں جن کی عقل میں سب کچھ ہے۔ لیکن قلب میں نہیں اُترا۔ بی ایے یا ایم اے تک عربی پڑھ چکے ہیں۔ ریسرچ کرنے اور ایک سالہ لکھنے کے بعد یونیورسٹی ان کو پنی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر ہو گئے۔ نوکر ہوئے تو بڑی بڑی تنخواہیں پانے لگے۔ یا بیسٹر ہیں اور ہزاروں روپیہ ماہوار کماتے ہیں لیکن

نہ صورت نہ سیرت نہ خالاش نہ خط
محبوب نامش نہ ہاوند غلط

قبر میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری کی کوئی قیمت نہیں ہے

آپ درس قرآن پاک میں آتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دے دی۔ اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جو نہیں آتے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دین کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں بلکہ ڈھکوسلوں پر ہے کچھ حسنی سنائی باتوں کو انہوں نے اسلام کا نام دے رکھا ہے

صیغے آپ سے کہا کرتا ہوں کہ روٹی کمانے کے لئے جہاں آپ کا دل چاہے جائیے دفتر ہو یا دوکان ہو یا کارخانہ۔ لیکن شام کو فارغ ہو کر جیب گھڑائیں تو بانٹا ریاب بیٹھک میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر کوئی اللہ الشکر کرنے والی جماعت ہو تو ان میں بیٹھئے۔ اگر ایسی جماعت نہ ملے تو کسی ایسے فرد کی صحبت میں خاموشی سے بیٹھئے اگر کوئی فائدہ نہ ہو گا تو نقصان سے تونج جائیں گے۔ اگر کوئی فرد بھی نہ ملے تو گھر میں تنہا بیٹھئے۔ فضول باتوں سے کیا فائدہ؟

اگر سب مسلمان میری معروضات کو سنیں۔ دل میں جگہ دیں اور عمل میں لائیں تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پوری امید ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی سنور جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر بہشت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی حشر کے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے بچا کر جنت

میں پہنچا دیا جائے گا :

بادشاہ مومن نہیں تو اُس کے تاج پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک غریب مومن کی گودڑی پر خدا کی رحمت ہے۔ اُس کے محل پر خدا کی لعنت۔ اس کے چھپر پر رحمت۔ اُس کے سونے کے پلنگ پر لعنت۔ اس کی چٹائی پر رحمت۔ جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اُس پر اُس کی رحمت ہوتی ہے جس سے وہ ناراض ہو اُس پر لعنت ہوتی ہے :

اگر کسی جگہ ڈیڑھ من ہینگ رکھ دی جائے تو اُس کی بو وہاں ہر چیز میں ہوگی۔ اسی طرح بادشاہ کی ڈیڑھ من لاش پر چونکہ لعنت ہے اس لئے جس چیز کا اس سے تعلق ہوگا۔ اس میں لعنت کا اثر آئے گا۔ دولت زیور۔ کوٹھی۔ موٹر ہو یا نہ ہو۔ اگر اندر ایمان ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی :

اگر دل فاکر ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر جو ہڈیاں۔ پسلیاں۔ گوشت اور پوست ہے ان پر بھی ہوگا۔ گوشت کے اوپر پیرہن۔ پیرہن کے اوپر صدری صدری کے اوپر ہات کوٹ۔ ہات کوٹ کے اوپر اور کوٹ۔ یہ چیزیں پہناؤ کے میں شامل ہیں۔ حالانکہ جسم پر صرف کرتہ ہے۔ اسی طرح ادھر لیجئے سر پر چھت اور نیچے چار پائی۔ کھانے پینے کے برتن ہر چیز کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر انسان کا دل فاکر ہے، تو ہر چیز پر ذکرِ الہی کی وجہ سے رحمت نازل ہوگی۔ دل

ذاکر ہو تو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ محل یا چھپر میں سوتا ہے اگر دل ذاکر نہیں تو سب پر لعنت نازل ہوگی۔ جس کو ٹھٹی میں خدا کا نام نہیں ہے۔ اس میں رہنے والے اگر میاں صاحب، بیگم صاحبہ اور ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی کلمہ نہیں آتا اور دل میں ایمان نہیں۔ تو اس کو ٹھٹی میں اس کے اندر رہنے والے سب پر لعنت برستی ہوگی۔ لاہور میں ایسے بدقسمت سینکڑوں نہیں۔ ہزاروں مسلمان ہیں خدا نے گنگا رام اور خوشحال سنگھ کی طرح سب کچھ دے رکھا ہے۔ ان میں اور ایک ہندو یا سکھ میں کوئی فرق نہیں۔ جب میں گئے تو کوٹھی کو چین آجائے گا :



صدی سے آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو فقط خوفِ خدا انسان بنانا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوفِ خدا نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کمینہ۔ بے حیا اور موذی درندہ خدا نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ شیر اپنے ہم جنس شیر کو نہیں پھاڑتا۔ مگر جب خوفِ خدا نہ ہو تو یہ موذی انسان دو ایٹم بم سے دوڑائی لاکھ انسانوں کو اڑا دیتا ہے :



صدی سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ایسے سمرت ڈریٹے۔ اس کو اپنی دولت۔ پارٹی اور ذاتی اثر و رسوخ پر ناز ہوتا ہے۔ وہ غیر کے دروازے پر جاتا ہے۔ وہ پولیس اور عدالت میں جائے گا۔ اس کا آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اگر اس کو آپ نے ستایا تو وہ غیر کے دروازے پر

نہیں جائے گا وہ بارگاہِ الہی میں فریاد کرے گا۔ دو آنسو بہا کر خاموش
ہو جائے گا

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگام دعا کروں
اجابت از در حق بہر استقبال می آید
اس کے دو آنسو ظالم کی بربادی کے لئے کافی ہیں :

کوٹھے میں جو درخت ہے۔ اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوٹھی کے
رہنے والے کی بے ایمانی اور بددیانتی کے باعث مجھ پر لعنت پڑ رہی ہے
وہ اکتا جاتا ہے۔ کہ یہ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ کیب مرتے ہیں۔ دو آب
میں گھوڑا بھینس سب آتے ہیں۔ ان کو بھی احساس ہوتا ہے کیا یہ ان کی
عزت ہے کہ جب مرتے ہیں تو سب شکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ زبان پر خدا کا نام
نہیں دل میں ایمان نہیں اور اتباعِ شریعت نہیں۔ جو حال گنگارام اور
خوشحال سنگھ کا ہے وہی محمدین کا ہے۔ سب کے مرنے پر یہ چیزیں چین
پائیں گی :

میں سے کہا کرتا ہوں کہ جس کو کوئی کام نہ ملے وہ لنگوٹی کھول کر ننگا ہو جائے
اور پاگلوں والی باتیں کرنے لگے۔ تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔
وہ سمجھتے لگتے ہیں کہ یہ مجذوب ہے۔ یہ یاد رکھئے کہ ہر پاگل مجذوب نہیں
ہوتا اور نہ ہر مجذوب پاگل ہوتا ہے :

سالم دل کے یہ معنی ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی سے محبت ہو اور نہ کسی کا ڈر ہو۔ اللہ والوں کا چونکہ یہ حال یہ ہوتا ہے اس لئے اس کا عکس طالب پر پڑتا ہے جن کا یہ حال ہوتا ہے وہ سطح زمین پر ہوں یا زیر زمین ہوں۔ دونوں جگہ خوش رہتے ہیں۔ صحبت میں انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے مگر پتہ نہیں لگتا۔ جس طرح ماں بچے کو کھلاتی پلاتی ہے اور ہر آن بڑھتا ہے مگر اس وقت پتہ نہیں چلتا ۛ



حضور کی بعثت کے بعد اب روحانی تربیت فقط آپ کی دامنگیری سے ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لئے میں ایک بڑے پنڈال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس میں داخلے کے لئے کئی دروازے ہیں۔ جب پنڈال بھر جاتا ہے تو سوائے صدر دروازہ کے سب دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پنڈال میں داخلہ کے لئے صرف صدر دروازہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنت میں داخلہ کے لئے بھی کئی دروازے ہیں مثلاً ایک دروازہ پر نوح داخلہ کا ٹکٹ عطا فرمانے کے لئے رونق افزو تھے۔ دوسرے پر ابراہیمؑ تیسرے پر موسیٰؑ اور باقی دروازوں پر دوسرے انبیاء علیہم السلام۔ صدر دروازہ پر رحمتہ اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ اب باقی سب دروازے بند ہو چکے ہیں صرف صدر دروازہ کھلا ہے اب حضور کی دامنگیری کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ۛ

ہندوؤں کے سادھو بہت ریاضتیں کرتے ہیں۔ کوئی جسم پر بھوت مل کر بیٹھتا ہے کوئی ہاتھوں کو اوپر کر کے ان کو سکھایتا ہے۔ لیکن اہل اللہ کو نظر آتا ہے کہ ان کے سینوں میں نور نہیں ہے گویا کہ ساری عمر برباد ہوئی نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ہاتھ آئی ۛ

میرے ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یا تو انسان خود عالم قرآن ہو یا کسی عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو یا اللہ تعالیٰ مادر زاد ولی بنا دے۔ ان تینوں صورتوں کے بغیر شیطان ایمان نہیں رہنے دیتا ۛ

ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی جو اس کے بغیر دوسری کسی چیز میں نہیں ملے گی۔ نمک کے اندر جو نمکین ہے وہ مشک وغیر میں نہیں ہے۔ اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو غریب کی ہنڈیا اور امیر کی دیگ پھینکی ہو گی قرآن میں غور و خوض نہ کرنے والا عالم بھی گمراہ ہو گا۔ اور جاہل بھی۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو بتلاتی ہے کہ ہمارا خدا سے کیا تعلق ہے۔ اور خدا کا ہم سے کیا تعلق ہے ۛ

بعض مرد اور عورتیں شریعت کے اتباع سے بچنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کتوں اور کتوں کے لئے نہیں بھیجا یہ تو انسانوں کے لئے ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو کتا

کہہ دیا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟

قرآن کے تعلیم اور اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو تو بعض عالم بھی گنگارام کی طرح ساری کفر کی رسمیں ادا کرتے ہیں:

آپ کو اللہ والوں کی بھی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ کہ کون کھڑے اور کون کھوٹا۔ کھرا وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث خیر الانام ہو۔ زبان سے تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں۔ میں تو آپ سے ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اس کو بھی اللہ کے سپرد کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ! جو کھڑے ہیں اس کے ہاں پہنچاتا کہ قیامت کے دن تو ہم سے یہ سوال نہ کرنے کہ تم فلاں جگہ کیوں گئے تھے:

ہو عالم اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اکثریت کھوٹوں کی ہے اگر ایک لاکھ مسلمانوں میں سے ایک بھی کھرا عالم ہوتا تو لاہور میں اب ہونے چاہیے تھے۔ کھرا وہ جو یہ کہے کہ خدا واسطے درس قرآن دوں گا تم کچھ دو گے بھی تو نہیں لوں گا۔ **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ط اسی قسم کے عالم ہی حق کہہ سکتے ہیں:

نصریے قابل کاشت ہو۔ لیکن اگر مالی نہ آئے اور پانی بھی نہ ملنے پائے تو وہ

بجے کار پڑھی رہے گی۔ اسی طرح نورِ فطرت موجود ہو یعنی اندر قبولیتِ حق کی استعداد ہو۔ لیکن جیب تک خارج کا نورِ ہدایت تاخیر نہ کرے یہ استعداد بروئے کار نہیں آتی ۛ

علمائے کرام قرآن سمجھا دیتے ہیں۔ صوفیائے عظام اس کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ قرآن رنگ ہے۔ قولنا تعالیٰ: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً قَدْ خَسِرَ۔ اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع ۶۱ پارہ ۱۱ دنیا کے رنگ ظاہر کو رنگتے ہیں اور قرآن باطن کو رنگتا ہے قرآن کا رنگ چڑھے جائے تو انسان انسان بنتا ہے ۛ

عالم شکوک و شبہات دور کر دے گا۔ مگر عمل کا رنگ نہیں چڑھتا۔ جب تک کامل کی صحبت نصیب نہ ہو۔ کامل سے اخذ فیض کے لئے عقیدت اور اطاعت کی ضرورت ہے ۛ

علمائے کرام اور صوفیائے عظام کا سلسلہ قرآن کی حفاظت کے لئے ہے فوجِ دراصل شیپاہیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لیکن اس میں ڈاکٹر۔ لانگری اور بیرے سب شامل ہوتے ہیں ۛ

قرآن مجید کی حفاظت دراصل علماء کرام اور صوفیائے عظام کا

کام ہے۔ لیکن ان ارشادات نبویؐ کے ماتحت اس کام میں ہر ایک حصہ دار
 بن سکتا ہے۔ اسی لئے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جو عالم یہاں قرآن مجید
 پڑھنے آتے ہیں اگر آپ ان کی خوراک کے لئے انجمن کے خزانہ میں کچھ دے
 دیں گے تو وہ آپ کی کمائی سے وال روٹی کھا کر جائیں گے جو بے تک و ہاشاعت
 قرآن کرتے رہیں گے شہنشاہ حقیقی کے خزانے میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے
 گا۔

آج جتنے عالم نظر آتے ہیں۔ یہ گورنروں، وزراء اور افسروں کی محنت کا
 نتیجہ نہیں ہیں۔ علماء کرام کی قوت گویائی سے کتاب اللہ کا علم دل میں آتا ہے
 کامل اس کو اعضا میں اتارتے ہیں۔

سکندر رومی سے ایک سائل نے پیسہ مانگا۔ اس نے کہا میری شان
 کے مطابق مانگو۔ سائل نے کہا اچھا بادشاہی دے دو۔ سکندر نے جواب دیا
 کہ اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھو۔ آج کل کے دنیا داروں نے اگر کسی مزدور کا
 ایک روپیہ دینا ہو تو ساڑھے تیرہ آنے ہی دینے کی کوشش کریں گے۔ کافی
 تکرار کے بعد ممکن ہے کہ پندرہ آنے دے دیں۔ میں تو اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں
 کہ غریب سے ڈرا کریں۔ اگر کسی غریب کے چار آنے بنتے ہیں تو اس کو ساڑھے چار
 آنے دے دیجئے۔ اگر آپ نے اس کا حق پورا نہ دیا تو ممکن ہے اس کی بددعا
 سے ہزاروں روپے کا نقصان ہو جائے۔

جمیعہ کے دن آپ سب آزاد ہوتے ہیں ایک میں ہی پابند ہوتا ہوں۔
اب تو لکھ کر لانا ہوں۔ لیکن بعض اوقات اس سے پیشتر گھنٹوں قرآن
مجید کی ورق گردانی کرتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پڑے بدل
کر چلنے کے وقت تک کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت
مخمسہ میں ہوتی ہے۔ ادھر لوگ منہ کو دیکھتے ہیں۔ ادھر اللہ کا ڈر۔ ادھر
یہ منبر حضور کے منبر کی نقل ہے۔ اس لئے حضور کا خیال پہلے انبیاء کے حضور
میں ان کی امتوں کے اعمال پر اور جمعرات کے روز پیش ہوتے تھے بعض
حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال
آپ کے حضور میں روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ یہی خیال آتا رہتا ہے کہ کہیں ایسی
کوئی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ حضور ناراض ہو جائیں۔ یہ اللہ کا
فضل ہے کہ کام چل رہا ہے وہی دل میں ڈالتا ہے۔ وہی یہاں لاکر بٹھاتا
ہے اور وہی زبان سے کہلواتا ہے :

باغ میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے
نظر آئیں گے۔ ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں سے گلات کی جڑ سرخ رنگ
اور گیسندے کی زرد رنگ اور موئیے کی سفید رنگ کھینچ کر لاتی ہے
پھر اور کمال دیکھئے کہ ہر ایک کی جڑ علیحدہ علیحدہ خوشبو زمین سے حاصل
کرتی ہے :

پاکستان میں ایسے آدمی بکثرت پائے جاتے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زنا، شراب، سینما اور ڈانس ان کا مشغلہ ہے۔ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ جب نماز کے متعلق ان سے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ "تساں نماز مال کی بنا لیا" (آپ نے نماز سے کیا بنا لیا) ہم نے نماز سے وہ کچھ بنا لیا جس کی تمہیں کچھ سمجھ نہیں۔ گھوڑے کو پہلے تو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر اس کو تانگے میں جوتتے ہیں اسی طرح گلے بھینس وغیرہ کو پہلے چارہ کھلاتے ہیں۔ پھر دودھ دیتے ہیں۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ کھانے، پینے کے بعد میں سینما اور ڈانس کے لئے فارغ ہوں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ کما کر لانے کے بعد اللہ اللہ کرتے۔ لیکن یہ پاگل اس وقت فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ بیوی خود بصورت ہو اور نشی شادی ہوئی ہو تو دفتر میں بیٹھے بھی بیوی یاد رہتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے تو پھر خود بخود قلب چل نکلتا ہے۔

جنس کے اندر ایمان ہے۔ ان کو بے ایمان کہتے ہیں۔ یہ رندمی باز اور شرابی ایمان دار ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا پھر کہیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر لاہور بھیج دے۔ لیکن لاہور تو غرق ہو چکا ہو گا۔ یہ عمر کی پوربخی میرا ذکر نے والے ہیں ۛ

موت سے ملنے ارزاں لیکن اللہ کے ملنے اس سے بھی گراں۔ موتی تو کافروں

کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ وائلے مسلمانوں میں بھی اللہ نے بیچ کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ الہی کی برکت سے اسلام زندہ اور تابندہ ہے قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، ظاہراً، باطناً، علماً، عملاً ان سب عنوانات کے ماتحت اللہ کے بندے موجود ہیں :

●
 صید سے آپ سے ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر کھرا دین چاہئے تو مدینہ سے لائیے۔ اگر آپ لاہور سے اوپر جائیں گے تو راستہ ہی میں ڈوب مر جائیں گے۔ عام طور پر سب کے کو جائز قرار دینے والے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ صرف وہیابی کہتے ہیں کہ قبور پر سجدے نہیں ہونے چاہئیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خواجہ علی ہجویریؒ، شاہ محمد غوثؒ، حضرت میانیر کے مزارات پر سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے اتباع میں استقامت عطا فرمائے :

●
 پنجاب میں کہتے ہیں۔ یا خود مرد ہووے یا مردوے سایہ پھیل رہے۔
 ریا تو خود مرد ہو یا مرد کے سایہ کے نیچے رہے میں اس کے مقابلہ میں کہا کرتا ہوں یا تو انسان خود صاحب استقامت ہو یا کسی صاحب استقامت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ ورنہ ہر وقت پھسلنے کا خطرہ ہے۔ تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں کئی پھسل گئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ آمین
 یا الہ العالمین :

لاہور میں ایسے مسلمان بکثرت موجود ہیں جن کے سینہ میں نورِ قرآن نہیں ہے جن علماء اور فقراء سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے اندر بھی نہیں ہے۔
اس لئے دونوں گمراہ ہیں :

مکیو متعلق مخالفین نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ اولیاء کرام کا منکر ہے۔ اس کے متعلق میں بارہا جمعہ۔ درس اور اس مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ جو اولیاء کرام کا انکار کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ لیکن جو ان کو خدا کے درجے پر لائے اس پر بھی خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ ملعون کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دوری یعنی ملعون سے خدا تاراض ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جمعرات کو ذکرِ جہر شروع کرنے سے پہلے گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر محبوب سبحانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ ہماری گیارہویں ہے اور یہی اصلی قدرت ہے ان بھلے مانسوں نے گیارہویں گوجروں سے دو دھ اور کھیر لینے کو سمجھ رکھا ہے۔ جو ان کو گیارہویں کھلاوے حنفی۔ خواہ وہ تارک نماز ہو۔ جو نہ کھلاوے وہ وہابی۔ کیا یہی دین لوگوں کو پہنچاؤ گے ؟

لاہور میں اس کو حنفی کہتے ہیں۔ جو مخلوط اسلام پر عمل کرے۔ ہم وہ بدست قلندر ہیں کبھی مسجد میں کبھی مندر ہیں۔ جو توحیدِ خالص کی طرف

دعوتِ دے لاہوری مسلمان اس کو وہابی کہتے ہیں :

”اصلی حنفیت میں نے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک بھی مسئلہ امام ابوحنیفہؒ کے خلاف ثابت کر دیا جائے تو میں یا حنفیت سے اپنا نام کٹوا لوں گا یا فوراً اصلاح کر دوں گا۔ یہ سب کفر اور شرک کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ کا نام بدنام کرتے ہیں :

اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حضورؐ کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیک و دُسیا جاٹے دارناک کرٹ جائے گی (مولوی ہونی کہندے تے تھیک ہین پر اسیں کتوں لیتیاں ہوٹیاں کہتے دینیاں ہوٹیاں (مولوی صاحب کہتے تے تھیک ہین لیکن ہم نے کہیں سے رشتہ لینا ہوا اور کہیں دینا ہوا) کھا دا جو ہو یا کھوانا پیندا اے رکھایا جو ہے اس لئے کھلانا پڑتا ہے) یہ پنجابی متقیوں کے الفاظ ہیں۔ یہ فاسق ہیں :

حضور نمازِ عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے بہت کم لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اکثریت سینما میں چلی جاتی ہے اور اس سے کم ریڈیو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ۲۲ گھنٹے کا مرتب شدہ پروگرام موجود ہے :

زندگی کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ لیکن اولیاء کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا منع ہے۔ میری تحقیق یہی ہے۔ اگر کسی اور کام کے لئے کسی جگہ جائیں تو پھر اولیاء کرام کے مزارات پر فاتحہ خوانی کے لئے حاضری دینا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے۔ مجھے جب توفیق ہوتی تھی تو اپنے دونوں مربیوں کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے جاتا تھا۔ باطن کا بیٹا ہو تو بزرگوں کے مزارات پر جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اندھے کے لئے جاننا جانا دونوں برابر ہیں ۛ

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر دنیا کے لئے ستر توڑ گوشش کرتے ہیں اور دین کے معاملہ میں سہیل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ ایک جوڑا بوٹوں کا خریدنا ہو تو ساری دکانیں پھر جائیں گے۔ مگر دین کے لئے جدوجہد ضروری نہیں سمجھتے ۛ

ہر چیز کی منڈی ہوتی ہے۔ ہدایت کی منڈی مساجد ہیں۔ مسجد سے باہر نہ دفاتر میں نہ بازاروں میں ہدایت ہوگی۔ وہ مساجد ہدایت کی منڈیاں ہیں جہاں کوئی عالم ربانی ہو ۛ

ہمیں کہا کرتا ہوں کہ توحید جانہین سے ہونی چاہیے۔ اگر توحید میں

کہیں فرق آگیا تو یہ مخلوق بالشکر ہو جائے گی۔ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نہیں۔ جب رب العالمین کو ہم نے اپنا لیا تو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ۛ



بچے کو تعلیم کا شوق دلانے کے لئے باپ کہتا ہے کہ اگر تم محنت کر کے پاس ہو جاؤ گے تو تمہیں کوٹ بسلا دوں گا۔ یا پورٹ یا سائیکل لے دوں گا۔ بچہ ان چیزوں کے لئے محنت کرتا ہے۔ وہ امتحان میں کامیابی کے نتائج سے بالکل بے خبر ہے۔ اگر اس سے یہ کہا جاتا کہ امتحان میں کامیابی سے فلاں فلاں فوائد حاصل ہوں گے۔ تو وہ کبھی محنت نہ کرتا۔ اسی طرح اگر انسانوں سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اس چیز کی قیمت کو اکثر انسان نہ سمجھ سکتے ۛ



ہیں انگریز کے زمانہ میں کہا کرتا تھا کہ جو شخص انگریز کی پوسٹان پولیس کے کہنے پر خطیب کی رپورٹ لینے کے لئے آتا تھا تو اس کے لئے نماز جمعہ پڑھنا بیکار تھی۔ گناہ معاف ہونے تو کجا اس پر تو خدا کی لعنت پڑتی تھی ۛ



قالے کے بعد حال کے لئے صاحب حال کی صحبت کی ضرورت ہے۔ جس فن میں انسان کامل ہونا چاہیے۔ اس فن کے باکمال کی صحبت میں مدت دید تک زندگی بسر کرنے کے بعد یہ کامل بن جائے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔

لوہار بننے کے لئے لوہار کی صحبت۔ درزی بننے کے لئے درزی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ادھر بھی یہی حال ہے۔ صحبت سے کتاب و سنت کا رنگ چڑھتا ہے ۛ

قالے کے مرتبی علمائے کرام اور حال کے مرتبی صوفیائے عظام ہیں۔ عالم پائیہ تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک قال۔ حال نہ ہو جائے۔ عالم بے عمل خلاق خدا کی گمراہی کا باعث ہوتا ہے ۛ

سندھ میں ایک بُری رسم ہے کہ اکثر رشتے تباہ لے میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بیٹے ہی بیٹے ہوں تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ پھر وہ کراچی سے لڑکیاں خرید کر اپنے بیٹوں کی مشاوری کرتا ہے۔ میں جب سندھ جاتا ہوں تو اس رسم کی مخالفت کرتا ہوں۔ اکثر مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اور لوگ ان کی دیکھا دیکھی اس رسم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جاہل میں امانیت ہوتی ہے اسی طرح صحبت کے بغیر علماء کی بھی "میں" نہیں مرتی ۛ

صحبت کے بغیر نہ ہستی مرتی ہے اور نہ دنیا پرستی کی بیماری جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کے لئے ان کے ساتھ عقیدت ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رنگ چڑھتا ہے۔

تربیت کے بعد بی اسے اور مدارس عربیہ کے فاضل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اولیائے کرام ہستی مسل کر رکھ دیتے ہیں :

صیغے عمر ۱۱ سال ہے اور ۱۲ سال سے لاہور میں رہتا ہوں جن کی پیدائش کے وقت میں نے اذائیں کہی تھیں وہ اب بی اسے ہیں ان میں بعض کمپوٹ اور بعض مشرک ہیں ان کے والدین نیک تھے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی اصطلاح میں والدین زندہ تھے اور اولاد مردہ ہے :

انگریز جسم اور کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں لیکن ان کی یہ دونوں چیزیں پاک نہیں ہوتیں۔ یہی حال اس کے تربیت یافتہ مسلمانوں کا ہے۔ ان کے ساتھ سیکنڈ کلاس میں سفر کرنے کا جب کبھی اتفاق ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان جنٹل مینوں کے پاس سوٹ کیس، بستر وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا تو لوٹا نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بیت الخلا میں جا کر طہارت کس طرح کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے جنٹل مین کو بھی وہ تمیز نہیں ہوگی جو حضور کی امت کے غریب سے غریب نماز کے پابند مسلمان کو ہوتی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے مگر پاک ہوں گے :

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ انسان جس فن میں کمال حاصل کرتا ہے اس فن

کے کابل کی صحبت میں مدتِ مدید تک اپنے آپ کو بٹھائے گا تو کابل ہو جائے گا۔ مثلاً درزی بننے کے لئے درزی کی صحبت میں مدتِ مدید تک بیٹھنا ضروری ہے۔ استاد کی ہر نقل و حرکت کو دیکھے گا۔ استاد کچھ زبان سے اور کچھ عمل سے سمجھائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بھی کابل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تیز کیہ نفس چاہیے تو اس فن کے کابلیں کی تلاش کرنی پڑے گی۔ کابل نایاب نہیں کیا اب ضرور ہے۔ وہ اللہ نے بیچ کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ عام نہیں ملتے اور نہ ان کی بہتات ہے :

صیغے کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا نٹا بدل دیتا ہے۔ جن کی زندگی کی گاڑی جہنم کی لائن پر سرسٹ جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جب قرآن مجید کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ کا نٹا بدل جاتا ہے۔ اور وہ جنت کی لائن پر چل نکلتے ہیں :

ہمیں نے اپنے مرئی حضرات کی خدمت میں کبھی ایک روپیہ بھی نذرانہ پیش نہیں کیا تھا۔ لیکن ان کو مجھ سے بے حد محبت تھی اور ہر وقت بیٹا بیٹا فرماتے رہتے تھے اور مجھے ان سے عشق تھا۔ ایک دفعہ میں حضرت امروٹی کی حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آنے لگا تو میں نے عرض کی کہ حضرت! میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا! میں تمہارے لئے دن رات دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا اور اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اللہ

والے تو دلوں کے بیوپاری ہوتے ہیں۔ وہ دلوں کی جنس کو دیکھ لیتے ہیں
 وہ ظاہری ساز و سامان کو نہیں دیکھتے۔ گھوڑوں کے بیوپاری ایک موٹے
 تازے گھوڑے کے مقابلے میں جو دوڑ نہیں سکتا۔ ایک دوڑنے والے
 گھوڑے کو ترجیح دیتے ہیں اسی طرح اللہ والے غافل امیر کے مقابلے میں ذاکر
 غریب کو ترجیح دیتے ہیں ۛ

میں کہا کرتا ہوں کہ اندھے سارے اور بینا کوئی۔ آپ کہتے کہ عقلمند
 سارے اور پاگل کوئی۔ میں کہتا ہوں کہ پاگل سارے اور عقل مند کوئی
 آپ کہتے ہیں کہ زندہ سارے اور مردہ کوئی۔ میں کہتا ہوں کہ مردہ سارے
 اور زندہ کوئی ۛ

ایمان کی منڈیاں ہیں مساجد۔ دکان دار ہے عالم ربانی۔ دکان ہے
 اس کا سینہ پونجی ایمان ہے۔ مال ہے قال اللہ وقال الرسول۔ اگر مسلمان
 ایمان کی پونجی لے جا کر کسی عالم ربانی سے قرآن مجید اور احادیث سنے گا
 تو انشاء اللہ ہدایت ہو جائے گی ۛ

دل ہے زمین۔ کلمہ طیبہ ہے بیج۔ چشمہ آب حیات ہے قرآن۔ ہادی ہے پانی
 دینے والا یہ نسخہ ہے اس سے یقیناً شفا ہو جائے گی ۛ

برادری تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی رائوں کے گوشت کے کباب
 بھی بنا کر کھلائیں تو یہ راضی نہ ہوگی۔ کوئی کہے گا نمک کم ہے کوئی کہے
 گا مرچ زیادہ ہے ۛ

صیغے نے واڑھی منڈوں کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ اگر میرے کہنے پر ایک
 شخص نے واڑھی رکھ لی۔ لیکن بعد میں منڈ وادی تو اس کا کیا فائدہ ہے
 اگر خوفِ خدا سے واڑھی رکھی جائے تو وہ تو فائدہ مند ہے۔ ایک بی بی
 ایل ایل بی نے اپنے والد کی زندگی میں واڑھی رکھی کیونکہ ان کے والد واڑھی
 منڈانے کو برا سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد واڑھی منڈ وادی اس
 کا کیا فائدہ۔ دہلی میں ایک بی بی اے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ
 علیہ سے پڑھتے تھے۔ ان کے ہجرت کر جانے کے بعد وہ مجھ سے پڑھنے لگا
 وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے واڑھی منڈ وایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی
 نہیں روکا۔ ایک دفعہ گھر گئے واپس آئے تو میں نے نہیں پہچانا۔ پہلے واڑھی
 منڈاتے تھے اب ان کی لمبی واڑھی تھی۔ یہ واڑھی محبوب ہے کیونکہ اندر
 سے دل کے کہنے پر رکھی گئی ۛ

گھڑا جب اونے میں ڈالا جاتا ہے تو پکتا ہے اسی طرح طالبِ صادق
 صحبت میں پکتا ہے لیکن کابل لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے ۛ

ہفت روزہ "خدا م الدین" میں مجلسِ ذکر اور جمعہ کا خطبہ دونوں چھپتے ہیں۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ چار سو سے شروع ہوا تھا اور اب ۲۳۲ ہزار چھپ رہا
 ہے۔ اس میں ہم نہ سیاست اور نہ کسی جماعت کے خلاف کچھ لکھتے ہیں۔

صید اول کئی دفعہ چاہتا ہے کہ کپڑوں کو دھجیاں لگا کر پہنا جائے
 لیکن اس ڈر سے نہیں پہنتا کہ حالی سائل نہ سمجھا جاؤں۔ اور قرآن کا
 درس بدنام نہ ہو۔

صید سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے دروازہ پر جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا
 بشرطیکہ نیت میں اخلاص ہو اور جو نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو دینے نہیں
 جاتے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی کوٹھیوں میں ان کو قرآن
 پڑھانے کے لئے جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے یہاں پر میرے
 پاس قرآن سننے کے لئے بھجو دیتے ہیں۔

صید سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور میں آکر میں
 نے جتنے انسانوں کا شکار کھیلا ہے اور کسی نے نہیں کھیلا۔ پہلے یا ٹھیک
 بدعتی تھے یا سجد چینیوں والی میں اہل حدیث تھے۔ اکثریت بدعتیوں
 کی تھی۔ اہل حدیث اقلیت میں تھے۔ جمعۃ الوداع میں جتنا جمع ہوتا ہے
 یہ سب بدعتیوں سے نکل کر آئے ہوئے ہیں۔ میں کھری کھری باتیں کہتا

ہوں۔ عام مسلمان تو سمجھ جاتے ہیں کہ بات ٹھیک کہتا ہے ائمہ مساجد کہتے ہیں کہ ختم درود کا مخالف ہے۔ میں ختم درود کا قائل ہوں بشرطیکہ مال حلال کا ہو۔ نیت میں اخلاص ہو۔ اور مستحقین کو کھلایا جائے۔ میں حرام کے ختم کا مخالف ہوں اکثر ختم حرام کے مال سے ہوتے ہیں :

●
جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو والدین اسے اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ اگر دیندار داماد مل گیا تو نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ وہ غم نہیں لگاتے۔ دنیا دار غم لگا لیتے ہیں۔ وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جہیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ۲۱ تیور اور ۲۱ پیور تیار کرنے ہیں۔ سرگودھا کی طرف تو ۲۱ گائے ۲۱ بھینس ۲۱ بھاف ۲۱ تھائی اور ۲۱ چار پائیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ دوسرے نہیں تو اور کیا ہے :

●
دنیا دار کو کھرے اور کھوٹے کے پرکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا نام بتلانا ہے۔ ہندو سکھ کوئی آئے۔ تقسیم سے پہلے میرے درس میں ہندو بھی آیا کرتے تھے سی آئی ڈی والے بھی آتے تھے ایک شاہ صاحب جو شیعہ ہیں اور وکیل ہیں کافی مدت تک درس میں آتے رہے۔ یہ خانہ خدا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آئے ہم نے تو اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم پرکھیں کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ آپ کو ضرورت ہے۔ آپ دن بھر خورد و نوش کی

چیزیں پرکھ کر خریدتے ہیں۔ دنیا کے معاملہ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دار کی چار آنکھیں ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ نیٹ اندھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں بڑی سہل انگاری سے کام لیتا ہے۔ جو لمبیں بڑھا کر آجائے وہ سائیں جی کہلاتا ہے۔ خواہ اندر پورا شیطان ہو۔ اور مردوں اور عورتوں کا اس کے گرد ہر وقت میلانگ رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ کچھ عرصہ ہو اسی قسم کے ایک سائیں صاحب شیخ پورہ میں بھی نمودار ہوئے تھے۔ بڑے بڑے افسر اس کے معتقد ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ ایک عورت کو اغوا کر کے بھاگ گیا تھا۔

انگریزوں کے داں کالج میں تسلیم حاصل کرتے ہیں اور ہوسٹل میں رہتے ہیں بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکر ہو جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ ہوتی نہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللّٰہ۔ اس لئے ان میں سے بعض کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ کے موقع پر انوار کے اس اجلاس میں چندہ دیں جس میں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو۔ اور بھرے اجلاس میں ان کے چندے کا اعلان ہو۔ پانچ سو میاں صاحب نے اپنی طرف سے دیا تالیباں بچیں۔ دوسو بیگم صاحبہ کی طرف سے دیا۔ پھر تالیباں بچیں۔ سو سو دو صاحبزادوں کی طرف سے۔ سو چھوٹی اور سو بڑی بہو کی طرف سے دیا۔ ہر اعلان پر تالیباں بچیں۔ میاں صاحب کے دل میں شیطان لعین یہ خیال لائے گا کہ لوگ کہیں گے اس ہمہ خانہ آفتاب اسف۔ لوگوں کے دلوں میں ہماری

عزت ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ یہ بڑے اسلام پرست ہیں اگر تربیت یہ ہے جو
میں عرض کر گیا ہوں تو سب برباد ہے۔

اللہ والوں کے جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنایا جائے تو باطن
کی بینائی حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسانوں میں سے کوئی سُورہ کوئی گناہ اور کوئی بھیسڑ
نظر آتا ہے۔

جب میں حاضر خدمت ہوتا تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ پھولے نہ سہاتے
سب سے فرماتے میرا بیٹا آگیا۔ ہماری اماں کو کہلا بھجوتے کہ احمد علی آیا ہے۔
اس کے لئے گہوں کی روٹی شہد اور مکھن بھجیو۔ کیونکہ ان کے ہاں اکثر
جواری کی روٹی پکتی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد فرماتے بیٹا! تھکے ہو گے اب
سورہ پھر باتیں کریں گے۔

میکرا دل چاہتا تھا کہ لاہور سے کچھ فاصلہ پر ایک تربیت گاہ بنائی
جائے جس کے چاروں طرف قد آدم دیوار ہو اس دیوار میں فقط ایک دروازہ
ہو۔ اندر رہنے کے کمرے ہوں جو احباب اپنی تربیت کرنا چاہیں ان کو اس
میں رکھا جائے۔ ان کے کھانے کے لئے میڈٹ کر کے گندم اندر بھیجی جائے وہ
۲۷ گھنٹے با وضو رہیں۔ اپنے ہاتھ سے گندم کو چکی میں پیسیں۔ اندر خود ہی سبزی
بوتلیں۔ میں وقتاً فوقتاً جا کر ان کو ذکر الہی کا پروگرام بتلاؤں۔ وہ اس کو نبھائیں

اس طرح ۲۱ دن تک خالص حلال اور طیب رزق ان کو کھلایا جائے۔ اور ذکرِ الہی کرایا جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ان کو نورِ باطن نصیب فرمائے گا پھر عبادت میں وہ لذت نصیب ہوگی کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی۔ چند اجاب اچھرہ کے پاس ایک ٹکڑہ زمین دیکھنے کے لئے بھی گئے تھے۔ ان میں سے خواجہ عبدالوہید اور مولوی علاؤ الدین صدیقی کے نام تو مجھے یاد ہیں۔ خواجہ صاحب کراچی چلے گئے صدیقی صاحب دوسری طرف لگ گئے۔ یہ سیکم ختم ہو گئی :

جب نور آتا ہے تو ظلمت کا فورہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ٹٹھکتے چراغ سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نام سے دل روشن نہیں ہو سکتا؟

جو بکری یا بھیر پوڑ میں رہتی ہے۔ وہ گڈریا کی حفاظت میں ہوتی ہے جو پوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ گڈریا کی حفاظت سے نکل جاتی ہے اور بھیر پوڑ اس کو شکار کر لیتا ہے۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے وہی شخص ایمان بچا سکتا ہے جو حق پرست جماعت سے وابستہ رہے گا :

ہمیں سے قادری اور حنفی ہوں۔ اہل حدیث نہ قادری ہیں اور نہ حنفی۔ مگر وہ ہماری مسجد میں ۴۰ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں :

ہماری جماعت جس لائن پر جا رہی ہے۔ میں شرح صدر سے کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں اور پاس ہی مشکوٰۃ شریف رکھنی ہوتی ہے عملی نمونہ اس میں سے دکھایا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو انسان کی شکل دیکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ ایک کافر کو آپ کلاہ انگلی اور شکوہ پہتا دیکھتے وہ اس کا فوٹو دیکھ کر بتلا دیں گے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس دفعہ مجھے مدینہ میں ایک بزرگ ملے جو ایک انسان کے نام پر انگلی رکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں ان کے لئے ان کا شکر یہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک نعمت صالح اولاد ہے۔ مولوی حبیب اللہ میرا بڑا لڑکا ابھی پڑھتا تھا کہ اس نے حضرت امروٹیؒ کو ایک خط لکھا۔ کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے عالم باعمل بنا دے۔ حضرت نے دعا فرمائی اور یہ بھی تحسیر فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں تمہاری تربیت کروں گا ورنہ اپنے والد سے اپنی تربیت کرانا۔ میں نے یہ خط بھی شیشہ میں جڑوا کر رکھا ہوا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی ماں ایمان ہے اور ایمان کی ماں خوفِ خدا ہے۔

ابھی چند دن ہوئے ہیں واہ فیکٹری میں گیا تھا۔ وہاں علمائے کرام کے سامنے
میں نے یہ بات کہی وہ مان گئے کہ عالم اپنے آپ کو اعلیٰ اور جاہل کو اپنے سے
ادنیٰ سمجھتا ہے یہی کبر ہے :

اہل اللہ نایاب نہیں کیاب ضرور ہیں۔ وہ امراضِ روحانی کے معالج
ہوتے ہیں۔ وہ برتن کی طرح دلوں کو مانجھ کر رکھ دیتے ہیں بشرطیکہ کوئی
کھرا مل جائے ورنہ لٹوں والے طلبہ سارنگی والے "حضرت صاحب" اور
"صاحبزادہ صاحب" تو بہت ہیں :

اگر کوئی شخص امتحان کا محرم راز ہو اور وہ اس سے معلوم کر کے کسی
طالب علم کو پرچہ بتلا دے پھر بھی اگر وہ طالب علم فیل ہو جائے تو اس سے
زیادہ بد قسمت کون ہو سکتا ہے۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے محرم راز ہیں اور آپ نے قیامت کے دن کے پرچے آؤٹ کر دئے
ہیں۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان امتحانِ عمری میں فیل ہو کر جہنم میں جائے تو
یہ اس کی بد قسمتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے
دن ہر شخص کو اس وقت تک دربارِ الہی سے نہ ہٹایا جائے گا جب تک
ان پانچ سوالات کا جواب نہ دے گا (۱) عمر کہاں خرچ کی تھی؟ (۲) جوانی کہاں
خرچ کی تھی؟ (۳) کمایا کس ذریعہ سے تھا؟ (۴) خرچ کہاں کیا تھا؟ (۵)
جو مجموعہ ہدایت میں نے نازل کیا تھا اس پر کیا عمل کر کے لائے ہو؟

میرا ایک چھوٹا سا نواسہ ہے وہ چونکہ گھر میں سب کو تسبیح پڑھتے ہوئے
دیکھتا ہے اس لئے وہ بھی تسبیح مانگتا ہے :

اسے جہاں میں ہر گھری چیز کے ساتھ کھوٹی موجود ہے۔ اصل کے
مقابلے میں نقل۔ نور کے مقابلے میں ظلمت۔ حق کے مقابلے میں باطل موجود
ہے۔ تصوف کے بھیس میں بھی بعض گھرے اور بعض کھوٹے ہوتے ہیں :

ہادیٰ ملنے مشکل ہیں اور مُضِل ملنے آسان۔ میں چالیس سال سے لاہور
میں رہتا ہوں یہاں ایک بھی ہادی نہیں۔ کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں
اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان کو تمہارے پاس بھیجا کر ان کی توہین کرائے
تاجر اپنا مال وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کی مانگ ہوتی ہے۔ کیا کبھی یہ
بھی دیکھا ہے کہ دیہات میں جوہری زیورات لے کر گیا ہو۔ وہاں تو گاجر
مولیٰ لے جاتے ہیں۔ نقلی ہادی تو بڑے ملیں گے۔ پنجاب میں علم طور پر مشہور ہے کہ
پیر ضرور ہونا چاہئے خواہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔

میرے کہا کرتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو یہ آسودہ
حال ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو پھر یہ چائے کا سیٹ۔ کوٹھی
موٹر میں غرق رہتا ہے :

میرے کہا کرتا ہوں کہ انسان کا پیٹ بھی چھوٹا سا دوزخ ہے جو "او" اور "کی" رٹ لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آجائے تو پیٹ کا دوزخ بھر جاتا ہے۔ پھر انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ خدا جانے جو کچھ اب موجود ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی موت آجائے ۛ

میرے کہا کرتا ہوں کہ دل بادشاہ ہے۔ دماغ اس کا وزیر اور اعضا اس کی فوج ہیں دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ دماغ مشورہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اگر دماغ دل کی تائید کرے تو پھر اعضا تعمیل حکم کرتے ہیں ۛ

میرے کہا کرتا ہوں اگر انسان کے منہ میں خوف خدا کی لگام نہ ہو تو اس جیسا موزی مینہ اور درندہ صفت اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور پیدا نہیں کیا ۛ

میرے اپنے بیٹوں کو جب وہ دیوبند میں پڑھتے تھے لکھا کرتا تھا کہ اپنے استادوں کا بہت ادب کیا کرو۔ ان کی ہر خدمت اپنے لئے فخر سمجھو۔ اٹھتے وقت استادوں کے جوتے سیدھے کر دیا کرو ۛ

ایلی چنے کا تاجر لائپنور۔ لاہور اور جب طرانوالہ سے چنے ہی کا بھاؤ معلوم کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح تربیت روحانی کے طالب کابل کے افعال و

اعمال اور اقوال معلوم کرتے رہتے ہیں ۛ

طالب شیخ کے اقوال و اعمال اور شیخ کی نشست و برخواست سے
عکس لیتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں سلسلہ قادریہ کے
بزرگوں کے اقوال درج ہیں۔ اقوال کے پڑھنے سے بھی شعور پیدا ہوتا ہے۔

صیغے کہا کرتا ہوں کہ رات کو اس مکرہ میں یادِ خدا کیجئے جس میں بیوی
بچے نہ سو رہے ہوں۔ وہاں آپ کو جو لطف آئے گا وہ اس مکرہ میں ہرگز
نہیں آئے گا..... جس مکرہ میں بیوی بچے
سو رہے ہوں۔ آپ کو خود لذت میں فرق محسوس ہوگا ۛ

میرے ایک عزیز واہ میں ملازم ہیں پرسوں ان کا خط آیا تھا جس
میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے
ایک دن اس بزرگ نے فرمایا کہ ہم تو تصورِ شیخ کو نماز میں بھی لائے
سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز میں تصورِ شیخ کرنا شرک ہے تو بھی ہم ہرگز
نہیں چھوڑیں گے۔ عزیز نے لکھا ہے کہ میں ان کے اس بیان سے کبیرہ
خاطر ہو گیا اور ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا ۛ

اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جہاں شیطان کو جوتے پڑتے تھے

اس بزرگ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان وہیں بیر لیتا ہے۔

جس سے طرح ریل کی دونوں پٹریاں کراچی سے لنڈی کوتل تک متوازی چلتی ہیں۔ اسی طرح جسمانیّت اور روحانیت کی دونوں لائنیں متوازی چلتی ہیں۔ عقلمند انسان دونوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جس طرح جسم کو غذا دیتا ہے اسی طرح روح کو وقت پر ذکر الہی کی غذا بہم پہنچاتا ہے۔ جس طرح ادھر لوگ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت بھی منہ میں دودھ یا شہدِ والا جائے اسی طرح ادھر بھی شریعت کہتی ہے کہ آخری دم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتے ہوئے نکلے ۛ

اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کی مجھ سے جو خدمت لی ہے یہ میرا جماعت پر احسان نہیں ہے۔ بلکہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ سیکھنے کے لئے میرے پاس اپنا کوئی بندہ بھیجا ہے جتنا وہ اللہ اللہ کرے گا مجھ کو ثواب ملے گا۔ بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ۛ

جس سے طرح باپ مر جائے تو چھوٹے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کے بعد استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنا اپنا رنگ نکلتا ہے بعض صاحبِ استقامت نکل آتے ہیں بعض ڈھل مل یقین ۛ

درسِ دل کا اظہار کرتا ہوں کہ اسی لاہور میں ایسے آئمہ مساجد بھی موجود ہیں جو شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہ خود زندگی بسر کرتے ہیں اور نہ اپنے پیغمبر کو ان دونوں کی روشنی میں چلاتے ہیں۔ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ وہ مجھ کو اپنا نہیں سمجھتے لیکن میں ان کو اپنا سمجھتا ہوں ۛ

صیغے تو اپنے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ صبح کا درس دینے کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ میمانی صاحب (لاہور کا قبرستان) میں پہنچا دیں تاکہ نہ درس کا ناغہ ہو اور نہ نماز قضا ہو ۛ

اگر بیوی بڑھی ہوئی ہے تو "خدا م الدین" اس کو لے جا کر دے دیا کیجئے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ بیویاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فقط اس لئے نہیں دیں کہ ان سے جھاڑو دلوائیں۔ برتن منجوائیں۔ کھانا پکوائیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ میرا دین بھی ان کو کھلایا تھا یا نہیں؟ اسی طرح اولاد کے متعلق بھی باز پرس ہوگی ۛ

کسبِ معاش کے لئے آپ جو ذریعہ چاہیں تلاش کریں۔ اس میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن کسبِ معاش سے فارغ ہونے کے بعد میرا مشورہ یہی ہے

کہ اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والی جماعت مل جائے تو اس جماعت میں بیٹھے۔ اگر جماعت نہ ملے تو ایسا کوئی شخص واحد مل جائے تو اس کے پاس بیٹھے۔ ایسی جماعت اور شخص واحد کی صحبت اکیسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اگر نہ جماعت اور نہ شخص واحد ملے تو پھر بہتر یہی ہے کہ گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھے ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں ۛ

صبر اللہ تعالیٰ سے بڑا خوش ہوں اور لاہوریوں سے بھی خوش ہوں کہ انہوں نے میری آواز پر لبیک کہا۔ الحمد للہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ۔ میں جب یہاں آیا تھا تو اس مسجد میں بھی چراغ جلتے تھے۔ میں خاموش بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ قرآن مجید دریا کی طرح اپنا راستہ خود بنالے گا۔ دریا اپنا راستہ خود دینا ہے۔ اس کے لئے کوئی راستہ نہیں بناتا ۛ

صبر کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں اخلاص ہے تو میرا ایک ایک منٹ کامیاب ہے خواہ ایک شخص کو بھی ہدایت نہ ہو۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھ کو اس کا دکھ بھی ضرور ہے۔ لیکن میں کامیاب ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لاہوریوں کو میری بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح کاشتکار اگر سو بیگھے زمین کاشت کرے اس کا دل تو چاہتا ہے کہ سو بیگھے ہی پھلین پھولیں۔ اگر سو میں سے ایک بیگھ بھی خشک رہ گیا اس کو

ضرور دکھ ہو گا :

اگر ہر مسلمان باطل کے مقابلہ میں ایک تنکا بن کر کھڑا ہو جائے تو باطل کی اشاعت رک سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ پانی کی رو میں اگر کسی وجہ سے ایک تنکا بھی کھڑا ہو جائے تو باقی تنکے اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اور صاف پانی آگے نکل جاتا ہے :



اللہ ہو کا پاک نام لینے والے کے لئے عجائبات کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں ساری دنیا کے خزانے بیچ نظر آتے ہیں جس کو اس کی لذت حاصل ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں کہ اے میرے بندے تو ساری دنیا کے خزانے لے لے اور یہ لذت واپس دے دے تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ نعمت میرے پاس ہی رہنے دے اور دنیا کے خزانے کسی اور کو عطا فرما دے :



ہمارا وہی امام ہو سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں مشعل قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں مشعل حدیث خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ خود ان دونوں نوروں کی روشنی میں چلے اور ہمیں چلائے۔ لیکن ہمارے ہاں نسلی پیر اور نسلی مرید ہوتے ہیں۔ "صاحبزادہ" میں خواہ کوئی ذاتی کمال نہ ہو لیکن اس کو پیر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ "صاحبزادہ" کے باپ دادا ولی اللہ تھے لیکن

اس میں ذاتی کمال کیا ہے؟

بیری کے سیر کو پکنے کے لئے کبھی درجے طے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے پور
آتا ہے پھر جوار کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے لیکن کڑوا ہوتا
ہے اگر بیری کے ساتھ لگا رہے تو لال ہو کر پک جاتا ہے اور خود بخود
ٹوٹ کر گر پڑتا ہے۔ یہ سیر کا درجہ کمال ہے۔ اور اس وقت وہ سیر کی نسل
قائم رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کی طرف اپنے آپ کو منسوب
توسب کرتے ہیں۔ مگر سختہ وہی ہوتا ہے جو صحبت میں مدت مدید تربیت پانے
کے بعد پک کر نکلتے۔ اور آئندہ وہی روحانی سلسلہ کو باقی رکھ سکتا ہے۔

صدیق کہا کرتا ہوں کہ جس طالب علم نے آج عربی پڑھنے کے لئے ضریب
یضرب اب شروع کیا ہے اور اس کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہے۔ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے
کرتہ پھٹا ہوا ہے۔ میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ اس لئے کہ یہ طالب علم بڑا ہو
کر اپنے استاد کی مسند سنبھالے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں بی اے اور فورٹھ
ایر کے طالب علم جو بہترین سوٹ بوٹ میں ملبوس گنگھی پٹی کئے ہوئے نہایت
صاف ستھرے ہوں میری نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کیونکہ
عربی کا طالب علم ہو کر قال اللہ وقال الرسول کی اشاعت کرے گا۔ اور
انگریزی دان نوجوان سے اس خدمت کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ
ان کو زمانہ تعلیم میں کتاب اللہ سے روشناس نہیں کیا گیا۔

کلہاڑی صیب نوہار کی دوکان سے نکلتی ہے تو اس کی ظاہری خوبصورتی کے لئے نیکل پالش کی ضرورت ہوتی ہے، نیکل ہو جانے کے بعد دیدہ زیب بھی ہو جاتی ہے بعینہ صیب عالم تحصیل علوم سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو انہیں مزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قال تو سکھاتے ہیں علماء کرام۔ اور حال کی اصلاح صوفیائے عظام فرماتے ہیں :-

مگراہی کا گائیڈ شیطان ہے جو سینما کو لے جاتا ہے اور جہنم کا ٹکٹ دلاتا ہے۔ بیوی بچوں کو جلدی جلدی کھانا کھلا کر تیار کرتے ہیں اور امیاں صاحب سب کو لے کر سینما پہنچاتے ہیں۔ اور وہاں سے جہنم کا ٹکٹ خریدتے ہیں :-

گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہو۔ گاڑی جھنڈی دے چکا ہو۔ انجن پہلی وول کر چکا ہو۔ میرا تھکمانی میں ہو۔ ایک پاؤں پائیدان پر ہو۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آئے اور مجھ سے آکر کہے احمد علی! قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ ابھی گاڑی تیز نہیں ہوگی دوسرا پاؤں پائیدان پر نہیں رکھوں گا۔ سائل کو دوڑنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ پہلے بتا دوں گا قرآن کا خلاصہ یہ ہے :-

اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو یہ جامع بیان ہے یہ شان قرآن ہے۔ اور اس پر چلنے والا

صلے نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں کبھی ایسے مقامات دیکھے ہیں جہاں
 کسی اللہ والے کی برکت سے خوب رونق تھی۔ اللہ اللہ کرنے والی جماعت
 موجود تھی۔ مسجدیں بھری رہتی تھیں۔ جمعہ کی نمازیں ہوتی تھیں۔ لیکن ان
 کے رخصت ہونے کے بعد نہ وہ جماعت رہی۔ نہ مسجدوں کی آبادی رہی۔
 نہ جمعہ کی نماز رہی۔ انہوں نے نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجدیں بڑی بنوائیں
 لیکن آج وہاں ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس غلطی سے
 آگاہ کرتا ہوں۔ کیونکہ ایسا ہوتا میں نے اکثر دیکھا ہے۔ اس بات کا بھی خیال
 رکھیں کہ جس سلسلے میں تربیت ہو رہی ہو۔ اس سے نکل کر دوسرے طریقے میں
 داخل ہوں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ پہلا نور بھی بچ جائے
 گا۔ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے دوسرے سلسلے مختلف ہیں۔ ایک شخص
 جو سلسلہ قادریہ میں تربیت کروا رہا ہو اسے چاہیے کہ اسی سلسلے میں اپنی
 تکمیل کرے۔ اگر شیخ فوت ہو جائے اور تربیت ناقص رہے تو اسی سلسلے
 کے تربیت یافتہ حضرات سے تکمیل کروائے۔ جماعت کے سارے افراد کی حالت
 یکساں نہیں ہوا کرتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیری کا درخت۔ اس
 میں چھوٹے چھوٹے بیر بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی کچے ہوتے ہیں۔ اور بعض مرغ
 بھی ہوتے ہیں۔ اگر درخت کٹ جائے تو سرخ بیر سے نسل حل سکتی ہے۔
 لیکن باقی سب خشک ہو جائیں گے۔ البتہ جب وہ درخت کے ساتھ تھے تو

ہرے تھے۔ اسی طرح جب شیخ موجود ہوتا ہے تو سب ہی پر ایک رنگ ہوتا ہے اگرچہ ان میں بعض کچے ہوتے ہیں اور بعض پکے۔ جو کچے ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ شیخ کی صحبت میں جو نور پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ اپنا نہیں ہے۔ اپنا تب ہوگا جب برس برس خود ہوں گے۔ اور سر پرست نہ ہوگا۔ تب بھی یہ نور رہے گا۔ اپنے سلسلے سے نکل جانے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چار پانچ لکڑیاں اکٹھی جل رہی ہوتی ہیں اور آگ خوب شعلے مار رہی ہوتی ہے۔ اور ہر لکڑی جل رہی ہوتی ہے اور اپنا رنگ دکھا رہی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کو نکال کر الگ کر لیں تو فوراً بجھ جائے گی۔ یہی حال ان طالبوں کا ہے جو جماعت میں رہ کر اللہ اللہ کر رہے ہوں۔ اگر وہ الگ ہوں گے تو نور بجھ جائے گا۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جس سلسلے میں آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے۔ گھر میں بیوی بچوں کو لے کر ذکر کیا کیجئے۔ میں جاننا میری زندگی کتنی ہے۔ میں تو اپنی عمر پوری کر چکا ہوں۔ اور اب تو اور ٹائم (OVER TIME) لگا رہا ہوں۔ اس لئے میں آپ کو اس غلطی سے آگاہ کرتا ہوں یہ میرا تجربہ ہے اور ان گنہگار آنکھوں سے اکثر ہوتے دیکھا ہے :



جسمانی سے باپ سے بڑھ کر روحانی ماں باپ جسمانی بھائی سے

بڑھ کر روحانی بھائی اور جسمانی بیٹوں سے بڑھ کر روحانی بیٹے ہوتے ہیں
 ہاں اگر ان سے روحانیت کا بھی تعلق ہو تو پھر نور علی نور ہے اور
 ان سے اصلی تعلق روحانیت ہی کا ہو گا جس اخلاص سے آپ اپنے وفات
 یافتہ روحانی بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعاؤں خیر کرتے ہیں۔ کیا برادری
 والے کر سکتے ہیں؟

یہ لاکھ چورہوں اور ڈاکوؤں کا جہان ہے۔ یہاں کئی ایمان پر ڈاکہ مارنے
 والے ہیں۔ بیوی بھی ڈاکو ہے۔ اولاد بھی ڈاکو ہے۔ برادری بھی ڈاکو۔
 ان ڈاکوؤں سے ایمان بچانے کی تدبیر یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت
 اختیار کی جائے۔ اس طرح ایمان کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

انسان کے کی مثال سمندر میں ایک جہاز کی طرح ہے۔ جہاز سمندر
 کی اتنی بڑی وسعت اور گہرائی کے بالمقابل ایک صفر کی حیثیت رکھتا
 ہے۔ اسی طرح انسان اتنی بڑی کائنات میں ایک صفر کی حیثیت رکھتا
 ہے۔ جس طرح جہاز کے لئے خطرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لئے بھی
 خطرات ہیں۔ جہاز کے لئے دو طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری اور
 دوسرے باطنی۔ ظاہری یہ ہیں کہ طوفان باد آجائے موجیں اٹھنے لگیں۔
 جن کی وجہ سے جہاز چل نہ سکے اور غرق ہونے کا اندیشہ ہو۔ باطنی یہ ہیں کہ بہار
 سے ٹکرا جائے۔ اور پاش پاش ہو جائے۔ اسی طرح انسان بھی ظاہری اور

باطنی گناہوں کے خطرہ میں گھرا ہوا ہے۔ ظاہری گناہ یہ ہیں۔ جھوٹ، بد کلامی، ترش روئی، غیبت وغیرہ اور باطنی یہ ہیں۔ حسد، کبر، عجب، جاہ طلبی، زر پرستی، ان کا پتہ نہیں چلتا لیکن اندر ہی اندر انسان کا استیانس کر دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اور کبر کے متعلق فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جاسکتا۔ اور کبر یہ ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ اور عجب خود پسندی کو کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا اور اپنے محبوب پر نظر نہ رکھنا۔ جاہ طلبی اور زر پرستی کی بیماری لگ جائے تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔

۲۶ کی مہل جلدی دھل جاتی ہے۔ تھوڑا سا صابن لگایا اور کپڑا صاف ہو گیا۔ اور بعضے کھدر کے کپڑے دھو بی دو تین مرتبہ بھٹی پر چڑھا تا ہے ایک، دو دفعہ میں میل نہیں نکلتی۔ تیسری چوتھی دفعہ صاف ہو جاتا ہے عامۃ الناس میں بھی اسی طرح بعضوں کی اصلاح جلدی اور بعضوں کی سالہا سال کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں کابل ہو گیا ہوں۔ قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہر وقت خطرہ ہے۔

کھلے عالم وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں

حدیث خیر الانام علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ ان دونوں کی روشنی میں خود چلے اور ہمیں چلائے۔ عالم پیارے ہوں تو ایسے جاہل بھی ایسے ہی پیارے ہوں جن کو ایسے عالموں سے پیار ہو۔ میں نے اللہ والوں کے ہاں ایسے جاہل دیکھے ہیں۔ ان میں للہیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ والوں سے جو باتیں سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ پھر آپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے حضرت نے یوں فرمایا۔ دوسرا کہتا ہے حضرت نے یوں فرمایا ۛ

مارچ باپ کو ستانے والوں کو نہ نماز اور نہ روزہ جہنم سے بچائے گا۔ نہ زکوٰۃ اور نہ ڈبل حج۔ ان کے لئے میں دوزخ کا فتوٰ لے دے رہا ہوں ۛ

سب کچھ بننا ہے آسان۔ سب سے مشکل بننا ہے انسان۔ انسان بننا ہے فقط قرآن ۛ

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جماعت کے سب لوگ کھدے کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ جن کو کیکر کے چھلکوں میں رنگا جاتا تھا۔ جماعت کے سب آدمیوں کو عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک پیالہ پھیکے بھات کا ملتا تھا جس میں نہ نمک اور نہ گھی ہوتا تھا۔ رات کو ایک دو دفعہ کھل کر پیشاب آیا طبیعت صاف ہو گئی اور تہجد کے لئے اٹھ بیٹھے دن کو کبھی روٹی اور

گھنگھنیاں ملتی تھیں۔ یہ غذا کھانے والا حضرت کا ایک بوڑھا خادم ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب! کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ اس کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں۔ اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے! میں نے جواب دیا جی ہاں! ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کامل کا عکس پڑا ہوا ہے۔ نعمتیں کیا کھائی ہیں؟ پھیکا بھات اور گھنگھنیاں! اے دنیا دار! میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی کبک، انڈے، پلاؤ۔ زردے اور قورے کھا کر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا؟



جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو پائی پائی گن کر نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نہ حج کرتے ہیں۔ تو ان میں گنگا رام یا خوشحال سنگھ میں کیا فرق ہے۔ کیا ان کے کانوں کی بالیوں پر لکھا ہوا ہے۔ ہَذَا صُلِيمٌ۔ جو لندن کے حاجی بن گئے مگر خانہ کعبہ کے حاجی نہ بنے۔ ان میں اور گنگا رام یا خوشحال سنگھ میں کوئی فرق نہیں۔ محمد دین۔ عبداللہ جان۔ عبدالرحمن نام رکھوا لینے سے کچھ نہیں بنتا۔ نام گنگا رام ہو۔ اندرا یگان ہو۔ اور ارکان اسلام کا پابند ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ پکا مسلمان ہے۔



اے دنیا دارو! تمہیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں ان کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاں بھیجا کر کیوں ان کی توہین

کرائے۔ لاہوری اللہ والوں کے دشمن ہیں سو اگر مال وہاں لاتا ہے جہاں
اس کی مانگ ہو۔ جوہری موتی اور جوہرات دیہات میں نہیں لے کر جاتا
دیہات میں تو مولیٰ گاجر کے سودا گر جاتے ہیں۔ موتی اور جوہرات
اناکلی لاہور اور چاندنی چوک بازار دہلی میں ملتے ہیں۔ کیونکہ راجے مہاراجے
نواب وہاں سیر کے لئے آتے ہیں۔

صدیقے کسی کی ذات کا مخالف نہیں ہوں۔ البتہ مخالف شریعت کے
کردار کا مخالف ہوں۔ کھری باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن
تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہم عالم نہیں تھے اور تیرے کسی بندے نے
ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا اللہ عالمین۔

صدیقے اہالیان لاہور سے کہا کرتا ہوں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے
ہوتے ہیں کہ تم ان کے منہ پر مٹھوکتا ابھی پسند نہ کرو۔ لیکن ان کے جوتے
پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت بستی ہے کہ تمہارے ٹوپوں پر جس کو تم
ہیٹ کہتے ہو ان پر بھی نہیں بستی ہے۔ کیونکہ ان کے باطن کی اصلاح
ہو چکی ہے اور تمہارا ہی نہیں ہوئی۔ بارش جب ہوتی ہے تو سر پر ٹوپی بھی
بھیگ جاتی ہے۔ جسم کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ اور پاؤں میں جوتا
بھی تر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی اللہ کے بندے کے وجود پر

اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس کے جوتے پر بھی پڑتی ہے۔ ایک شخص بظاہر آپ ٹوڈیٹ (UP TO DATE) جٹلمین ہو۔ اگر اندر ایمان نہیں ہے تو وہ پکا بے ایمان ہے اور سیدھا دوزخ میں جائے گا۔

بعض آدمیوں کو بولنے کی مشق ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ کتاب و سنت کے عالم نہیں ہوتے وہ "پکی روٹی" پڑھ کر ایسا وعظ کرتے ہیں کہ اکثر عالم بھی نہیں کر سکتے یہ کھوٹے عالم ہیں ان کے پیش نظر روپیہ کمانا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ہدایت مقصود نہیں اسی طرح بعض کھوٹے پیر محض روپیہ کمانے کے لئے مریدوں کے ہاں جاتے ہیں۔

قبر میں دین حق کام آئے گا۔ بناوٹی دین کام نہ آئے گا۔

اب تو محلہ والے ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ابتدا میں انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ ایک دفعہ تنگ آکر میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن مجید ہاتھ میں لے لیتا ہوں تم مجھے دھکے دے کر مسجد سے نکال دو۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جرات ان کو نہ ہوئی۔

حبیبی کل انشاء اللہ تعالیٰ عمرہ کے لئے جا رہا ہوں۔ مولوی حبیب اللہ کی والدہ بھی ساتھ جا رہی ہے وہ وہاں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا ہے۔

کہ اسکے اللہ میرے والدین کو مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر کے ہمارے جانے کا سامان بنا دیتا ہے۔ اس کی والدہ کی خدمت کے لئے کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت کبھی۔ اس لئے مولوی انور بھی جا رہا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ مولوی انور یہاں رہے تاکہ وہ درس دیتا رہے۔ لیکن اس کی والدہ نے اس کو تیار کر لیا ہے۔ اس لئے میں خاموش ہو گیا۔ میرے بعد مولوی حمید اللہ درس دے گا۔ جمہ پڑھائے گا اور ذکر بھی کرائے گا۔ وہ عالم ہے اور دو سال سے اسکول اور کالج کے لڑکوں کو درس قرآن مجید دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ درس اور ذکر میری غیر حاضری میں بھی ہوتے ہیں۔ باہر والوں کو تو میں مجبور نہیں کرتا۔ البتہ لاہور والوں سے ضرور عرض کروں گا کہ وہ دونوں میں باقاعدہ آیا کریں اگر ہرمی کین نہ ہو تو ٹمٹھا تا دیا ہی سہی۔ مولوی حمید اللہ کو ٹمٹھا تا دیا ہی تصور کریں۔ کچھ نور و شنی دے گا ہی۔ اگر کوئی نہ آئے گا وہ تو تسبیح لے کر ذکر میں بیٹھ جائے گا۔ پھر الزام آپ پر ہی آئے گا۔

اگر آپ آکسفورڈ، کیمبرج، برلن، پیرس، ٹوکیو، واشنگٹن کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تو حاصل کریں۔ لیکن قرآن نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ جاہل ہیں۔

صیغے کہا کرتا ہوں کہ راہ نما ہے قرآن۔ راہ رو ہے مسلمان۔ منزل مقصود

ہے دربارِ رحمن :

اگر عالم اپنے دماغ کی الماری میں علم کے انبار لگا کر رکھ لے لیکن عمل میں کھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کی کوئی قیمت نہیں۔ یہود کے علماء تو رات کے فاضل تھے۔ لیکن چونکہ عمل میں کھوٹے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں :

اپنی جماعت سے کہتا ہوں کہ جاہل صوفی کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا جاہل صوفی کی مثال ایک تیراک کی سی ہے۔ جو خود تو تیر کر دیر یا کو پار کر لیتا ہے۔ لیکن دوسروں کو پار نہیں لے جاسکتا۔ ایک عالم صوفی کی مثال ایک ملاح کی سی ہے جو ہزاروں کو کشتی میں بٹھا کر دریا کے پار پہنچا دیتا ہے :

میرے کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ عالم ملکوت سے اٹھا کر یہاں زمین پر لا پھینکتے ہیں۔ اور کامل پھر عالم ملکوت میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت باپ دادا کی لائن پر چلتی ہے :

ہمارے ہاں پیسہ نہ ہو تو دلا کہا جاتا ہے۔ پیسہ آجائے تو وہی شخص میاں عبد اللہ صاحب بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ظاہری حسن اور نہ

دولت کی قیمت ہے

بد قسمت ہیں وہ لوگ جو تزکیہ نفس کے مخالف ہیں۔ اگر صوفیائے عظام نہ ہوں تو روس کا ایک کمیونسٹ نوجوان تمہارے اسلام کو پھونکوں سے اڑا سکتا ہے۔ صوفیائے عظام اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اسلام کی حفظ و بقاء باطن کے اندھوں سے نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی برکت سے ہے جو باطن کے بینا ہوتے ہیں ۛ

ہادیٰ خود دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن وہ اصلاح حال کا جو بیج بوجاتا ہے وہ اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی بار آور ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ لائن آج تک چلی آرہی ہے ۛ

صیغے دربار الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی یعنی منبر پر بیٹھا ہوں۔ یہ منبر تمہاری کرسیوں سے اعلیٰ ہے جو تم کو انگریز دے گیا ہے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں مانو گے تو تمہارا ہی بھلا ہو گا نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ۛ

میں نے کہا کرتا ہوں کہ انگریز کی وائٹ لیس ڈیر میں آتی ہے۔ اولیائے کرام کی وائٹ لیس ایک منبٹ سے بھی پہلے اطلاع دیتی ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔

علم غیب وہ ہے جو بلا وسیلہ - بلا ذریعہ خود بخود حاصل ہو یہ فقط اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے ۛ

میرے اپنی جماعت سے کہتا ہوں کہ جو صوفی کتاب و سنت کا عالم نہیں میرے مرنے کے بعد اس کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں۔ جو کتاب و سنت کا عالم نہیں وہ کسی کی صحیح رہنمائی کر ہی نہیں سکتا ۛ

میرا سینہ وسیع ہے جو لوگ مجھے اور میرے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں میں تو ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں ۛ

میں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے جوتوں کی خاک کے ذروں میں سے جو موتی ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میرے دونوں مربیوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے مجھے اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے نہیں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی میرے دل میں اتنی قدر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندے! یہ نعمت واپس دے دے تو میں اس کے عوض تجھے تاج شاہی پہنا دوں گا تو میں عرض کروں گا اے اللہ! آپ تاج شاہی کسی اور کو پہنا دیں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس یہ نعمت ہی رہنے دیجئے ۛ

میرے تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ بے شک امریکہ میں جا کر تعلیم پاؤ۔ وہ تعلیم
خدا رسیدہ ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ڈگریاں روٹی کمانے کا ذریعہ
ٹھیک ہیں۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اور تمہارا
ماں باپ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اعزازی ڈگریاں ذریعہ
نجات نہیں ہیں۔ روٹی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ تعلیم جدید قریب الی اللہ کا ذریعہ
نہیں ہے۔ میں کلمہ حق کہوں گا جو میری بات مانیں گے کا ثابہا بدل جائے گا۔

●
میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ جو منکر حدیث ہے وہ منکر قرآن ہے
جو منکر قرآن ہے وہ خارج از اسلام ہے یعنی بے ایمان ہے۔

●
والا کینٹ میں ایک مرتبہ تین عالم میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ان
سے پوچھا کہ اگر ایک جاہل آپ کے سامنے آکر بیٹھ جائے تو آپ اپنے آپ کو
اس سے بہتر نہیں سمجھیں گے کیا مولویوں کو یہ جائز ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھیں
یہ کہ جاہل کہیں بات کر سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ میری
مسجد میں ایک ہیٹ پوش نماز پڑھنے کے لئے اتا ہے۔ ہیٹ اتار کر
کھونٹی پر لٹکا دیتا ہے اور رومال باندھ کر نماز جمعہ پڑھ جاتا ہے۔ میں نفس کو
یہ سمجھاتا ہوں کہ چالیس سال تک بزرگوں نے تیرے قلب پر نظر ڈالی ہے۔
اور اب بھی تجھ میں کمزوریاں موجود ہیں۔ اس بیچارے کو تو کسی ہادی کی صحبت
ایک منٹ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو کبر دفع ہو جاتا ہے۔

ہیں بزرگوں کی عظمت اور ان کی بزرگی کا دل و جان سے معترف ہیں اور آج کل کے نام نہاد پیروں اور پیروڑوں سے زیادہ ان کی نیکی اور پارسائی کا معتقد ہوں۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی نگاہِ فیض کے اثر سے بحد اللہ اتنی توفیق میسر آگئی ہے کہ اب یہ بھی مجھ پر منکشف ہو جاتا ہے کہ کون اپنی قبر میں کس حال میں ہے :

الحمد للہ آج چوالیس برس سے خدا کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد منشا بنایا ہوا ہے اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور اب آپ کو بھی اس چیز کا سبق دیتا ہوں یہ راستہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ اور بزرگوں کی صحبت کے بغیر اس راستہ پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے اس وقت تک نفس و باطن کی اصلاح ناممکن رہے گی :

آج جاہل پیر اور علماء سوء حق بات کہنے والوں کو بدنام کرتے ہیں ہمیں ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ۔

عرفی تو میندیش زغوغائے رقیباں

آواز سگان کم نہ کن در زق گدارا

کے مصداق گداگر کو اپنی صدا لگانی چاہیے۔ خیر ضرور مل کر رہے گی۔ کہتے بھونکتے رہیں گے۔ حق کا انشاء اللہ غلبہ ہو گا۔ باطل مٹ جائے گا :

اب ۷۶ سال کا بوڑھا ہوں چار ماہ سے صبح کا کھانا بھی چھوٹ گیا ہے
 مہموبلی ناستہ پر گزارا ہوتا ہے ہم نے جوانی میں بھی وال پی پی کر تعلیم دین
 الہی حاصل کی ہے۔ جوانی کا کھایا ہوا بوڑھا پے میں کام دیتا ہے :

قرآن مجتہدوں نے کی رسم نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آئے ایک وقت بخدا
 حب کہ لاہور میں تیسرے جلد شدہ حامل شریف چھ آنے میں مل جایا کرتی تھی۔
 اور یہ لوگ چھ آنے کا قرآن مجتہدوں کے سر دے کے ساری عمر کے گناہ معاف کرا
 لیتے ہیں۔ نہ نماز نہ حج نہ زکوٰۃ اور نہ دیگر کسی عبادت کی ضرورت محسوس کرتے
 ہیں۔ چھ آنے کا قرآن لے کر مولوی کو دے دیا اور مولوی نے اپنی روٹی کی
 خاطر نہ حق بیان کیا اور نہ اصل حقیقت سے عوام کو آگاہ کیا :

اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ صرف دین کی اشاعت کے لئے
 خدام الدین کو شائع کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ خدام الدین لندن۔ انڈونیشیا
 رنگون۔ مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ وغیرہ بھی جاتا ہے۔ لوگ رسالے اخبار وغیرہ
 ذریعہ معاش کے لئے نکالتے ہیں۔ لیکن اس رسالے کی کمائی میرے اور
 میری اولاد کے لئے بالکل حرام ہے۔ اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں
 اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لئے یہ رسالہ چھپتا ہے :

سنو، غور سے سنو علمائے کرام تم کو تعلیم ربانی دیتے ہیں۔ تم کو با حیا

بنانا چاہتے ہیں۔ اور انگریز تم کو بے حیائی سکھاتا ہے۔ تم بتلاؤ کہ ۱۴ لاکھ کی آبادی میں کسی ایک نے اپنے کسی ایک لڑکے کو عالم دین بنایا ہو؟ کیا کوئی تھا؟ اور کیا کوئی اب ہے؟ قرآن سے تو تم بالکل جاہل ہو۔ اور پھر علمائے کرام پر مذاق کرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ بی اے ہو جائیں۔ لڑکا بھی بی اے ہو جائے۔ لڑکی بھی بی اے ہو جائے اور پھر نوکری مل جائے۔ تمہاری عقل مسخ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ آمین۔ تم اے لاہور یو! قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو گے کہ رَبَّنَا مَا جَاءَنَا مِنَكَ نَذِيرٌ۔ اے اللہ تیرا کوئی بندہ ہمیں ڈرانے کے لئے آیا ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ عذر نہ کر سکو گے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی خادم ہمیں آپ کا دین بتلانے کے لئے آیا ہی نہ تھا۔ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اعتراضات سے بری الذمہ کرنا چاہتا ہوں؟

ہمیں سے صاف کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا اور حج نہیں کرتا اگر مال ہے تو چلے اپنا نام محمد دین رکھوائے مسلمان نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے اور اگر کوئی اپنا نام گنگا رام رکھے نماز پڑھے روزے رکھے زکوٰۃ فرض ہے تو دے۔ حج فرض ہے تو کرے۔ تو وہ پکا مسلمان ہے؟

اگر آج مر جائیں تو سارا مال و دولت وارثوں کا ہو جائے گا۔ یہ مال پرایا ہے

اب اس مال سے خیرات کرنا بھی حرام ہے۔ اور خود کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن آج کل یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے اور کوئی خدا کا ڈر نہیں۔ اگر میت کے مال کو قرآن کے مطابق وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ اور اسی مال سے مولویوں کو بلا کر ختم شریف پڑھوایا جائے۔ اور پھر ملاں نان۔ جلوہ وغیرہ کھائیں تو یہ سب حرام ہے۔ میں قرآن شریف کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مال یتیموں کا حق ہے۔ یتیم بچے اس مال سے پرورش پائیں گے۔ ان ملاؤں کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک بھائی دروازہ میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا شیرالوالہ دروازہ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیرالوالہ میں مرجائے تو یہاں کے ملاں بھائی دروازے والوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر بھائی دروازہ میں کوئی مرجائے تو وہ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کو جلوہ نان وغیرہ ملتے رہتے ہیں۔ کیونکہ لاہور میں کوئی نہ کوئی تو روز مرتا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو میت کے مال میں سے میراث تقسیم کرنے سے پہلے ایک پائی تک خرچ کرنا حرام ہے۔ اور اس مال سے نان۔ جلوہ۔ گنڈیریاں۔ سنگترے وغیرہ کھانا بالکل حرام ہے۔ میت کے مال سے صرف قبر تک پہنچانے کی ضروریات پر جو خرچ آئے۔ ان کا خرچ کرنا صرف جائز ہے۔ مثلاً کفن۔ گورن کی مزدوری وغیرہ باقی اور کسی کام کے لئے خرچ کرنا بالکل حرام ہے۔ ان ملاؤں کو اگر میت سے اور ان کے گھر والوں سے ہمدردی ہے تو قرآن پڑھ کر اس میت کو ثواب بلا معاوضہ پہنچائیں۔ قرآن کا معاوضہ (نان جلوہ) وغیرہ کیوں لیتے ہیں؟ اگر کوئی مرجائے تو ملاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر

گھروالے بیوہ عورت کو کہتے ہیں کہ آپاچی ۱۵ سیر گنڈیریاں لانی ہیں۔ ۵ روپے کے نان۔ ۵ روپے کے سنگترے لانی ہیں۔ پیسے دے دو۔ ان سب چیزوں کو ملاں کھائیں گے۔ کچھ شرم کرو۔ کیوں حرام کھاتے اور کھلاتے ہو؟



مجھے لاہور میں آئے ہوئے ۲۵ سال ہو گئے ہیں۔ میں کسی میت کے گھر کھانے پینے کے لئے نہیں گیا۔ مجھے شریعت کا علم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں۔ میں پکا حنفی ہوں۔ کیونکہ لاہور میں کئی رسمیں نکل آئی ہیں۔ قبروں پر سجدے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتی ہیں اور میں ان رسموں کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو لوگ دہا بی کہتے ہیں۔ شیطان بڑا العین اور خطرناک ہے بے ایمان کو ایماندار اور ایماندار کو بے ایمان بنایا ہوا ہے :



میں نے ۲۰ جولائی ۱۹۶۱ء بروز جمعرات کو صبح کے وقت عمرہ کرنے کے لئے مکہ معظمہ جا رہا ہوں۔ ۲۱ جولائی کو جمعہ کراچی پڑھوں گا۔ حکومت نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں پہلے سے جانے والا تھا۔ اچانک میری ایڑھی میں سخت درد ہونے لگا۔ جس کی وجہ سے میں چار دن تک چل پھرنے سکا اور جو ٹکٹ میں نے خرید رکھا تھا وہ واپس کر دیا۔ اور مولوی حمید اللہ جو کہ عالم بھی ہے اور حافظ بھی میرے بعد درس القرآن اور جمعرات کو مجلس ذکر کرائے گا۔ موت کا علم نہیں۔ کہ کب آئے پانچ سال ہو گئے ہیں نے درزی کو بلا کر اپنے ناپ کا کفن تیار کروا رکھا ہے۔ اور

میں ہر وقت موت کے لئے تیار ہوں۔ اگر میں مکہ معظمہ میں فوت ہو گیا تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کسی بدعتی اور قبر پرست پیر کے پیچھے نہ لگ جانا اور گمراہ نہ ہو جانا۔ بلکہ کسی متبع سنت اور اصلاح یافتہ عالم کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سارے مولوی اور پیر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ بلکہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔

اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میں تم کو چیلنج دیتا ہوں کہ آکر میرے پاس بیٹھو کوئی کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو پھر تمہیں تین چار فاقے ضرور آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو یہاں رزق بھیجے گا۔ اور لوگ دیگیں پکا کر یہاں لائیں گے۔ کہ اصحاب کہف پیدا ہو گئے ہیں۔ کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ رات کو جگاؤں گا اور ذکر الہی کراؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کراؤں گا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے دیتا ہے۔

میرے نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے سب لاہوریوں سے زیادہ اور اچھا۔ پھر میں اسے جمع کرتا ہوں اور اسے صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم گیارہویں مرتبہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ سے ہو کر آیا ہوں۔

اگر کوئی محلہ میں مرجائے تو رشتے دار بیوہ کو کہتے ہیں کہ آپاجی! ۱۵ روپے کے نان، ۱۰ روپے کا حلوہ، ۳ روپے کے سنگترے اور ۲ روپے کی گنڈیریا لانی ہیں۔ مولوی آٹے ہیں ان کو کھلانی ہیں۔ پھر وہ بیوہ عورت یتیم بچوں کے مال سے پیسے دیتی ہے۔ اور یہ مولوی تیجے، ساتویں اور چالیسویں کے دن آکر دو چار سورتیں پڑھ کر سب کچھ کھاپی کر "ختم شریف" پڑھتے ہیں یاد رکھو تیجے۔ ساتویں۔ چالیسویں وغیرہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اور یہ سب مولوی حرام کھاتے ہیں:

میں سے کسی کا برا نہیں چاہتا۔ جو لوگ گیا رہیں شریف اور ختم شریف کے نہ ماننے کی وجہ سے وہابی وہابی کہتے ہیں۔ میں ان کا بھی بھلا چاہتا ہوں:

مجھ سے تعلق رکھنے والے احباب میرا کنبہ ہیں۔ میری سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بخش دے کوئی بھی مرد یا عورت دوزخ میں نہ جائے۔ آمین

سنو! میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تم اپنا نام ما دھو سنگہ۔ گنگا رام رکھو او۔ ناز پنجگانہ ادا کرو۔ زکوٰۃ پائی پائی گن کے دو۔ حج فرض ہے تو کر کے اور روز رمضان کے تیسوں رکھو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم بچے مسلمان ہو۔ اگر

کوئی اپنا نام محمد دین عبد اللہ جان - اللہ رکھا - محمد جان رکھوئے - نماز ایک
 پڑھنے پائے - حج فرض ہے تو نہ کر کے آئے - روزہ ایک نہ رکھے - زکوٰۃ یا وجود
 واجب ہونے کے بالکل نہ دے - تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ہذا کافر حق
 کہ یہ پکا کافر ہے ۛ

اگر کوئی نماز نہ پڑھے - وہ کافر ہے بے ایمان ہے - سوتے ہوئے نماز رہ
 جائے - تو اور بات ہے - جان بوجھ کر باتیں کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دے تو
 میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ پکا کافر ہے - چاہے وہ لاکھ پتی ہو چیف جسٹس ہو
 ایم اے اور ایل ایل بی ہو - پی ایچ ڈی ہو - کیا تمہیں حق کہنے والے مر گئے
 ہیں؟ میں تمہیں اس لئے کھری کھری سنا تا ہوں کہ میں روٹی نہیں مانگتا
 یا درکھو - تنخواہ لینے والا کبھی حق نہیں کہہ سکتا - اسے ہر وقت یہی خیال ہو
 گا کہ کہیں روٹی بند نہ ہو جائے - تمہیں وہی حق کہہ سکتا ہے جو تم سے بالکل
 بے نیاز ہو اور کسی قسم کا طمع نہ رکھے - خود بے دین بے ایمان ہو اور علماء کرام پر
 مذاق کرتے ہو - تمہیں شرم نہیں آتی - حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ میری امت کے علمائے کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجہ کے ہیں -
 اور تم ان کا مذاق اڑاتے ہو - تو یہ کر لو - ورنہ قبر میں جا کر جو تے کھاؤ گے کہ یاد
 کرو گے ۛ

۴۵ سال ہو گئے - مجھے قرآن مجید کی تعلیم دیتے آج تک میں نے کبھی

کسی سے ایک پائی تک تنخواہ نہیں لی۔ اس شخص امام الدین رسالہ کی آمدنی میں سے ایک پائی تک میرے لئے اور میری اولاد کے لئے حرام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم سب سے زیادہ مجھے دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امرتسر مکہ معظمہ حج و عمرہ کے لئے ہوئی جہاز پر گیا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی لاکھ پتی امرتسر مکہ معظمہ ہوئی جہاز پر گیا ہے؟ مال حرام بود بچائے حرام رفت۔ میں کوئی کام نہیں کرتا۔ میرے بیٹے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور نہ میں نے انہیں انگریزی پڑھائی ہے۔ تو کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا بڑا بیٹا مسجد نبوی میں درس دیتا ہے۔ وہ بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلال رزق عطا فرماتا ہے مجھے تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اور میرے بیٹے کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق بھیج دیتے ہیں۔



اب اگر کوئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کرتا ہے۔ خواہ اس کا نام محمد دین۔ اللہ دیتا۔ اجمل خاں ہو کیا میں تم کو حق سنانے سے ڈرجاؤں گا؟ میں تم سے مانگ کر نہیں کھاتا میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ اس لئے تم کو صاف صاف باتیں بتا ہوں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ ان کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ اور رزق سے بچ جاؤ۔ مجھے تمہاری بالکل پرواہ نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

کی ذات کو تمہارے اعتراضات سے ہر می کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو رَبَّنَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ۔ کہ یا اللہ! تیرا کوئی بندہ نہیں ڈرانے کے لئے نہیں آیا تھا۔ اگر تم سب کے حقوق ادا کرو گے تو بیچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے ۛ

اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو مجھے وہابی رہے ایمان کہتے ہیں۔ چونکہ میں پتیموں کا مال ختم شریفوں میں جا کر نہیں کھاتا اس لئے مولوی مجھے وہابی کہتے ہیں ۛ

یہاں تیجا شریف سنا تا شریف چالیسواں شریف سب اسلام کے خلاف ہیں۔ کل کو اگر تم رات کو زنا کرو اور کہو کہ رات رتدی شریف آئی تھی زنا شریف کیا تھا تو کیا تمہارے منہ پر چوتانہ ماریں گے۔ کیا تمہارے شریف لگانے سے چائز ہو جائے گا ۛ

میں نے اپنی جماعت کے لئے خاص دعا کرتا ہوں اور میں نے پچھلے سال مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر اپنی جماعت کے لئے خاص دعا کی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے مردوں اور عورتوں کو استقامت عطا فرمائے اور سب گناہ معاف فرما کر جنت میں پہنچائے اور دوزخ سے بچائے آمین یا اللہ العالمین ۛ

نہایت سے مسلسل پانی کا قطرہ گرتا رہے تو زمین کو نرم کر دیتا ہے۔ پانی کتنا نرم ہے اور زمین کتنی سخت ہے۔ مسلسل پانی پڑنے سے زمین کو دلہل بنا دیتا ہے۔ آپ بھی بیٹھ کر سوچا کیجئے کہ اتنے عرصہ سے ذکر شروع کیا ہوا ہے کیا مجھ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ مراقبہ کے معنی یہ ہیں کہ سوچا کیجئے پہلے کون کون سے گناہ کیا کرتا تھا۔ ہر شخص کے گناہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کئی عورتیں آتی ہیں۔ ایجابی! تعویذ و یحییٰ کوئی بیوی کو خرچ نہیں دیتا۔ کسی کی ماں شکایت کرتی ہے کہ اس کا باپ مر گیا تھا میں نے اس کو جیسے کیسے پالا ہے اب عورت کو لے کر کوٹھی میں رہتا ہے اور میری پرواہ نہیں کرتا۔ بعض بازار ایٹ لاء ہیں مگر نماز نداد۔ روزہ نداد۔ شیطان کے پیچھے میں آئے ہوئے ہیں۔

روحانی بیماریاں قبریں چمکیں گی۔ اور ستائیں گی پھر ملائوں سے قرآن بخشواتے سے نہیں بخشیں جائیں گی۔ پنجابی میں ایک مثال ہے گناہ کر کے نانی اور چٹھی دو ہتروں کو۔ یعنی گناہ تم کرو اور توبہ تمہاری طرف سے مولوی کریں۔

یاد رکھو جو مرد یا عورتیں سینہ میں کنجریوں کا گانا سننے کے لئے جاتے ہیں وہ سب بدمعاش ہیں۔ چاہے وہ ایم اے ہو یا پی ایچ ڈی یا کوئی جاہل ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ کہ اگر کسی اجنبی

عورت پر بیسیاختہ نظر پڑ جائے تو معاف سے لیکن دوبارہ جان بوجھ کر
 اُسے جھانکنا حرام ہے۔ آج کل مرد عورتوں کو دیکھنے کیلئے اور عورتیں مردوں
 کو دیکھنے کے لئے ہر روز سینا جاتے ہیں۔ اسے دوسروں کی بیویوں
 اور لڑکیوں کو جھانک کر دیکھنے والو! کیا تم اپنی لڑکی یا بیوی کو سب عام
 دوسرے لوگوں کو دکھانا پسند کرو گے کہ یہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت
 ہے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اگر تم اپنی بیوی یا بیٹی کو
 دوسروں کو دکھانا پسند نہیں کرتے تو اوروں کی لڑکیوں اور بیویوں کو
 تم کیوں دیکھتے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟



اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور گزشتہ تین سال سے فالج کا عارضہ بھی
 ہے۔ مگر ذرا بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ میں گھر سے نماز کے لئے مسجد
 میں آنے کے لئے مجبور و معذور ہوتا ہوں۔ اور آجاتا ہوں تو نماز بیٹھ کر
 پڑھتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں اتنا تیز چلتا تھا کہ میں گھر سے مسجد کو آتا
 تھا تو میرے نوجوان بچے میرے پیچھے بھاگ کر ساتھ ملتے تھے مگر اب گھر
 سے مسجد کو آتا ہوں تو ان کو میری حفاظت کے لئے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ بہر
 حال الحمد للہ میں اپنے فرض کو انجام دے چکا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھے
 روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے
 میں علماء کرام کو اس بات سے متنبہ کیا کرتا ہوں کہ یہ ہرنیکی کے کام میں یا
 ڈال دیتا ہے۔ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ لیکن یہ خود مجھ پر بھی حملہ آور

ہوتا ہے۔ مثلاً تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان یہ خیال لاتا ہے کہ
 بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے اور میں اپنے بزرگوں کے طفیل لا کی
 تلوار سے فوج کر دیتا ہوں۔ تلوار سے وار کرتا ہوں اور ڈھال سے وار روکتا
 ہوں اور کہتا ہوں کہ کم بخت! میں لوگوں کو پیغامِ حق پہنچا رہا ہوں یا واہ
 واہ کے لئے تقریر کر رہا ہوں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب میں بہت
 بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کمزوری بہت ہے لہذا میں سب کو اجازت دیتا ہوں
 کہ آپ انفرادی طور پر ذکر کر لیا کریں اور اب یہاں آنے کی تکلیف نہ فرمایا
 کریں۔ ویسے جب دل چاہے آکر مل جایا کریں۔ میرا دل تو نہیں چاہتا
 کہ اس سلسلہ خیر کو ختم کیا جائے۔ مگر کیا کروں مجبور ہوں اور آپ کو ذکر
 کی تلقین کرتا ہوں۔ میں نے جو فرائض اپنے ذمے لے رکھے ہیں میں بڑی مشکل
 سے ان کو نبھاتا رہا ہوں لہذا چاہتا رہا ہوں کہ کچھ کام گھٹا دوں۔ علماء کرام کا
 دورس بھی آج کل حسب سابق جاری ہے اور اللہ کے فضل سے بیابیس
 علماء کرام آئے ہوئے ہیں جن کے سامنے روزانہ مسلسل تین گھنٹے بولنا پڑتا
 ہے۔ اس سے پہلے ایک گھنٹہ درس عام بھی ہوتا ہے۔ بعد ازاں ملاقاتوں
 کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں میرے آرام کا وقت بھی نکل جاتا ہے
 ملاقاتوں میں مستورات کے ساتھ مجھے بہت سرکھپانا پڑتا ہے۔ لیکن اس
 سلسلے کو اس وجہ سے بند نہیں کر سکتا کہ بعض عورتیں خالص اللہ کا نام پوچھنے
 کے لئے آتی ہیں۔ آپ میری کمزوری کا ڈاکٹر صاحبان کی اس بلائے سے
 اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے شوگر ۸۰ ہوتی ہے اور میرے ۲۰۰ ہے۔

اگرچہ ابھی ذکر نہیں کرنا ہے مگر بند کرنے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتا لیکن علماء کرام کی
 جماعت اگلے سال نہیں لے سکوں گا۔ انجمن خدام الدین کی رپورٹ ملاحظہ
 فرمائیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تین ہزار پانچ سو تیرہ علماء
 فاسخ التحصیل ہو چکے ہیں۔ لیکن اب مزید بہت نہیں رکھتا۔ لوگ باہر کے
 سفر کے لئے مجبور کر دیتے ہیں۔ اب پھر کل ملتان اور بھلووال (سرگودھا) کا
 سفر درپیش ہے جب میں جوان تھا تو عمو ماتھروڈ کلاس میں سفر کیا کرتا تھا
 مگر اب ۷۶ سال کا بوڑھا ہوں اور ساتھ ساتھ فالج کا مریض بھی ہوں۔
 میرے معالج ڈاکٹر چودھری (خدا ان کو خوش رکھے) مجھے اکثر ٹیکے وغیرہ لگاتے
 رہتے ہیں اور طبیعت کی بحالی کے لئے یونانی اور انگریزی دوائیاں کھاتا
 رہتا ہوں۔ میں جہاں مردوں سے خوش ہوں وہاں عورتوں سے بھی بہت
 خوش ہوں کہ اگر ان کو دین کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ بھی مردوں
 کے برابر خدا یاد کرتی ہیں۔ (سورہ تحریم) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا**
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو اپنے آپ کو
 اور اپنے اہل و عیال کو ووزخ کی آگ سے بچالو۔ میں نے چار مسجدیں بنوائی
 ہیں جن میں دو مسجدیں فقط عورتوں کے پیسے سے بنی ہیں۔ اور ان میں غسل خانہ
 حجرے وغیرہ ہیں۔ اور ان میں مردوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ الحمد للہ
 ہفت روزہ خدام الدین کے مطالعہ سے لوگوں کو کافی دینی شعور پیدا ہو
 رہا ہے۔ اور مجھے اکثر عورتوں کی جانب سے اس کی تائید و تصدیق کے خط
 ہتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے فقط ایک عورت کو بیعت کرنے کے لئے

کو عٹہ کا سفر کرنا پڑا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی وجہ سے اور
 عورتوں کو دین کی طرف توجہ ہوگی۔ میں نے کبھی کسی دینی کام کو سہرا انجام
 دینے کے لئے چندہ کی اپیل نہیں کی۔ اور آپ اس پر شاہد ہیں۔ مسجد سے
 ملحقہ مدرسۃ البنات کی تعمیر و تکمیل پر ... ۱۰۰ روپے خرچ ہوئے
 ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے چندہ کی اپیل نہیں کی۔ ذکر کی تلقین کرتا
 ہوں اور خدا سے اپنی اور آپ کی استقامت کی دعا کرتا ہوں۔ وَالْحَمْدُ
 دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝


—————
 دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

باب ۱۰

نصیحت آموز واقعات

حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف تقریروں میں بعض نادر واقعات بیان فرمائے جن کے پڑھنے سے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے اور دل میں خوفِ خدا بھی پیدا ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے واقعات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس باب میں حضرت ہی کی زبان اور حضرت ہی کے الفاظ میں کچھ واقعات درج کئے گئے ہیں۔

نیکوں کا تذکرہ بجائے خود نیکی ہے۔ ان کے واقعات نصیحت و عبرت کا خزانہ اور آئندہ نسلوں کے لئے نشانِ راہ ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے اسی اصول کے پیش نظر گذشتہ امتوں اور ادیوں کے قصص بیان کئے ہیں تاکہ انہیں الی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے خطوط کا جائزہ لیں حضرت نے بھی مختلف بزرگوں اور اہل اللہ کے نادر واقعات بیان فرمائے ہیں جن کے پڑھنے سے دل میں خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے بزرگوں کے طریق پر چلنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور عشقِ الہی کی چمکاریاں دل میں سلگنے لگتی ہیں یہ باب اصحابِ حال اور اربابِ کمال کے واقعات کا مجموعہ ہے



حضرت مرشدنا حافظ محمد صدیق صاحب کے ہاں ایک بزرگ آیا کرتے تھے جن کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد اشرف صاحب تھا۔ اولیاء کرام میں سے تھے جب صاحب زادہ صاحب کے انتقال کی ان کو اطلاع دی گئی تو فرمایا کہ مجھے کیا کہتے ہو اٹھا کر گڑھے میں ڈال دو۔ یہ ہے قلب سلیم :

دوسرے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بیٹا بیمار تھا۔ رات بھر مرنے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے جب انتقال ہو گیا۔ تو پھر چادر ڈال دی۔ جو پوچھنے آتا اس سے فرمادیتے آرام آ گیا ہے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جماعت کو اطلاع دی اور کفن و دفن کی تیاری کے لئے حکم دیا :

حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کا نابینا خادم تھا۔ اس نے کسی سے کچھ روپے لینے تھے۔ ایک بینا شخص کو ساتھ لے کر مقروض کے پاس گیا۔ سارا دن سفر کر کے شام کو اس کے ہاں پہنچے۔ اس گاؤں میں کسی کے ہاں شادی تھی وہاں باجے کی آواز آنے لگی۔ تو ساتھ تھی سے کہنے لگے۔ کہ چلو یہاں سے نکل

چلیں۔ اُس نے جب کہا کہ سارا دن سفر کر کے تھکے ماندے ہیں۔ اب ذرا آرام کر لیں۔ تو جواب دیا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ فلاں بزرگ کا فلاں خادم اس گاؤں میں موجود تھا۔ جہاں باجے بیچ رہے تھے تو میرے پیر کی بدنامی ہوگی۔ یہ ہے تصوف جو اس کے منکر ہیں وہ بے سمجھ ہیں۔

ایک دفعہ نواب بہاولپور نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ تو کئی مقامات سے دعوت نامے آئے۔ میرے دادا پیر حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کی طرف سے دعوت نامہ تو نہ آیا۔ مگر وزیر صاحب خود ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا۔ کہ وزیر صاحب فقیر خود بہاولپور چلے گا۔ اونٹ پر اپنی دیگ لا کر لے جائے گا۔ جو رزق اللہ دے گا اس میں سے سب کھائیں گے۔ نواب صاحب کی دعوت نہ کھائیں گے۔ پھر فقیر نواب صاحب سے جو کہے گا۔ وہ کانوں سے گزر کر نواب صاحب کے دل پر پڑے گا۔ نواب صاحب کی آنکھیں کھلیں گی۔ پھر وہ آپ سے ریاست کا حساب لیں گے۔ اور آپ ان کو زہر دے کر ماریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا۔ کہ تو زندہ حاضر ہے۔ وزیر صاحب نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے۔

حضرت امروٹی کی نظیر نہ تہی تھی۔ نہ اب ہے۔ ایک دفعہ ایک انسپکٹر پولیس آپ کے ہاں آیا۔ اور عرض کی کہ حضرت اہلستان پولیس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی سواری کا گھوڑا قیمتاً مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے کہ تمہیں خدا

کی قسم ہے جس طرح ان کا پیغام مجھ کو دیا ہے۔ اسی طرح میرا پیغام بھی ان کو پہنچا دینا۔ میں نے گھوڑے جہاد کے لئے رکھے ہیں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا۔ تم تو گھوڑا مانگتے ہو۔ میں تو تم کو اپنا اور گھوڑوں کا پیشاب بھی آنکھ میں ڈالنے کے لئے نہیں دے سکتا :

ایک نقش بندی بزرگ تھے۔ میں ان کا بے ادب کیا کرتا تھا۔ اگرچہ میرا خاندان قادری ہے۔ اس کا صلہ مجھے وہ یہ دیا کرتے تھے۔ کہ جب لاہور سے گزرتے تو زیارت کرانے کے لئے آجاتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ میں ایک گاؤں میں گیا۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کو کچھ دنوں سے ذکر الہی میں لذت نہیں آتی۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اس کو قبض کہتے ہیں۔ کہ اللہ اللہ کرنے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حبیب اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتلایا گیا کہ گاؤں والوں نے ایک دن چوری کی گائے کا گوشت کھایا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ذکر کی لذت سلب ہو گئی :

حیوں بند میں ایک بزرگ تھے۔ جب کبھی حرام ان کے پیٹ میں چلا جاتا تو فوراً قے ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی دعوت کی اور ہر سکن احتیاط کی کہ کوئی حرام یا مشتبہ چیز نہ پکے پائے۔ اس شخص

نے دعوت میں کھیر بھی پکائی۔ کہتے ہیں کہ جب اس بزرگ نے کھائی تو فوراً قے ہو گئی۔ تحقیق حال کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جس بھینس کا دودھ کھیر میں استعمال ہوا تھا۔ جب اس کا دودھ دودھ رہے تھے تو اس نے پاس والی بھینس کے

چارہ میں سے تھوڑا سا کھا لیا تھا۔

سماں لکھ

صو لیتا حبیب الرحمن صاحب لودھیانوی مرحوم کے پیر کسی زمانہ میں حضرت خواجہ احرار غزنوی تھے۔ وہ ایک دفعہ لودھیانہ تشریف لائے۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بہت سے لوگ موجود تھے کہ اچانک فرمانے لگے۔ سب کو نکال دو۔ زنا کی بو آتی ہے۔

ایک دفعہ دورہ تفسیر کے بعض علمائے کرام کو پچا ہوا سالن ملا۔ تو انہوں نے دونوں باورچیوں کے حصّہ کا سالن چھین کر کھا لیا۔ یہ ڈاکہ نہیں تو اور کیلے اس سے ان میں تو تو نہیں ہیں سے بڑھ کر ہاتھ پائی تک نو بیت پہنچی۔ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اگلے دن مستری رحیم بخش مرحوم نے مجھ سے اس کا ذکر کیا۔ تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے علمائے کرام کو بلا کر سمجھایا کہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ اس لڑائی میں بے عزتی کس کی ہوئی؟ باورچیوں کی نہیں۔ بلکہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔

ایک دن بعض علمائے کرام نے باسی روٹی میرے سامنے لاکر پیش کی۔ کہ

ہمیں یہ کھانے کو ملتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک دفعہ میری بیوی بیمار تھی۔ لڑکی نے باسی کڑے لاکر میرے سامنے رکھوائے۔ جو کئی دنوں کے جمع شدہ تھے اور ان میں تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ اور طبیعت تھے کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے نفس کو ڈانٹا۔ کہ روز تازہ روٹی کھاتے تھے آج اللہ نے باسی بھجوائی ہے یہی کھانی پڑے گی۔ میرے دادا پیر کے ہاں ایک دن کڑوا خربوزہ آیا۔ سارا خود کھا گئے۔ ایک پھانک خادم کو دے کر فرمایا کہ لو بھائی تم بھی چکھ لو۔ یہ نہ کہنا کہ آج مجھے حصہ نہیں ملا۔ اس نے زبان پر رکھا۔ تو تھو تھو کر نے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ روز جو میٹھے بھجواتا تھا اس نے آج کڑوا بھجوا دیا۔ تو تھوک دیا۔ میں نے دادا پیر کا واقعہ سنا ہوا تھا اس لئے نفس کو زبردستی باسی روٹی کھلائی۔ اللہ والوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت حال بھی کسی سے نہیں کہتے۔ کہ اس میں اللہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حکایت حال شکایت ذوالجلال و

ایک دفعہ علماء کرام نے شکایت کی کہ ہمیں جو سبزی کھلائی جاتی ہے وہ تو بیل بھی نہیں کھاتے۔ میں نے آئندہ کے لئے سبزی بند کر دی اور وال یا خالی گوشت پکانے کے متعلق ہدایات دے دیں:

ایک دن میری بیوی نے بلا تک قریبوں کا سالن میرے آگے لاکر رکھ دیا میں چپکے سے کھا گیا۔ ایک دفعہ غلطی سے رات کے اندھیرے میں بیوی نے

اُس برتن میں شور با ڈال دیا جس میں نمک کی ڈلی تھی۔ نمک زیادہ ہو گیا۔
لیکن میں کھا گیا۔

آج کا تازہ واقعہ ہے۔ کہ ایک بچی نے مٹی کی پٹری پکائی وہ کہیں بھسکی
اور کہیں مٹی تھی۔ میں نے کھالی۔ اور کسی سے کچھ نہیں کہا:

میرے شادی کو چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مگر میں کبھی اپنی بیوی
سے نہیں لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کھانا پسند آئے تو
کھاؤ اور نہ آئے تو مت کھائیے۔ نقص نہ نکالئے۔ یہ میرے حضرت کا
کمال ہے کہ انہوں نے انانیت کا کاٹنا نکال کر رکھ دیا ہے۔ میں جب دہلی میں
رہتا تھا۔ تو ایک دن گھر میں مجھے ایک خیال فاسد آیا۔ میں نے اللہ کے
فضل سے اس کو رو کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے بازار سے کچھ سودا لانے
کی فرمائش کی۔ میں سودا لینے بازار گیا۔ دکان پر بڑی بھیر تھی۔ میں ایک
طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا۔ اس نے مجھے پتلی
پر کاٹنا چاہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یہ اس خیال فاسد کی تصویر تھی
چونکہ میں نے اللہ کے فضل سے اس کو رو کر دیا تھا۔ اس لئے میں کہتے
کے حملے سے محفوظ رہا:

ملتان سنٹرل جیل میں بعض علمائے کرام باورچی کو ڈانٹتے کہ سالن

میں یہ نقص ہے۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے
کہ گھر میں لڑکیوں کو بھی ڈانٹتے ہیں؟

●
میاں محمد عیسیٰ صاحب ساکن میاں علی جو اس مجلس میں موجود ہیں۔ وہ بیخ
کے سلسلے میں ایک گاؤں گئے۔ جس شخص کے گھر میں بہان تھے۔ اس کے
ہمسایوں میں ایک پیر آیا ہوا تھا۔ اس ہمسائی نے ان کو بتلایا کہ میرا پیر اناج
نہیں کھاتا۔ صبح سے دو مرغ پکوا کر کھا بیٹھا ہے۔ زبردستی جلوہ بھی پکوا کر
کھا چکا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بارہ روپے نذرانہ دو گی تو جاؤں گا۔

●
ہیں وہ ایک دفعہ سندھ گیا۔ تو ایک دوست نے وہاں کے پیر کا قصہ
سنایا۔ پیر صاحب کے مریدوں میں عام طور پر یہ شہور تھا کہ ہمارے پیر صاحب
کی کرامت یہ ہے کہ پاخانہ نہیں کرتے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے پیر
صاحب کو رات کو پلاؤ کھلایا۔ اور سوتے وقت خوب کڑا ہوا دودھ پلایا
اور ان کو ایک کمرے میں سلا کر دروازہ مقفل کر دیا۔ اسے جب حاجت
ہوئی۔ تو بہت کوشش کی مگر باہر نہ نکل سکا۔ اینٹیں بھی اکھاڑنے کی
کوشش کی۔ آخر کار باورچی خانے میں جا کر پاخانہ کر دیا میں نے سب کو بلا کر
ان کے مریدوں کے غلط پرانے گنڈے کا راز فاش کر دیا۔

●
دھلی کے ایک مجذوب کا واقعہ ہے۔ کہ ایک دفعہ ان کی طبیعت پر قبض

طارمی ہو گئی۔ دیوبند چلے گئے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔ زبان سے کچھ نہیں بولے۔ صرف پاؤں دبانے سے قبض رفع ہو گئی۔ اور ہنستے ہنستے واپس آ گئے۔ اپنے اندر فطرۃ کا نور سلامت ہو تو کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے ادھر سے کڑھٹا آتی ہے:



ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور حکم دے دیا کہ ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز ان کے ہاں نہ پہنچنے پائے۔ پہرے بٹھا دئے گئے۔ جو ان کے ہاں آتا۔ اس کی تلاشی لے کر آنے دیتے۔ ایک دن وہ خادم کو ساتھ لے کر باہر تشریف لے گئے۔ اور خادم سے فرمایا۔ جو خریدنا ہو۔ خرید لو۔ جب دیکھا کہ بازار لگا ہوا ہے اور ہر چیز موجود ہے تو عرض کی حضرت ایہ کیا ماجرا ہے۔

فرمایا کہ ہمارے حصہ کا جو رزق تھا اس کو ہمیں پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ عظام کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ یہاں جنگل میں بازار لگا کر بیٹھا کریں:



میرے دادا پر حضرت حافظ محمد صدیق خود حافظ قرآن تھے اور خود ہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عالم کو آپ نے نماز پڑھانے کے لئے اپنے مصیبتی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت کا ایک فدائی خادم نہ رہ سکا۔ وہ مصیبتی لے کر بھاگ گیا۔ کہ میرے حضرت کے مصیبتی پر غیر آدمی

کیوں کھڑا ہو۔ مگر حضرت نے اپنی بیگمڑی بچاڑ کر مصلا کی جگہ بچھا دی۔ اور فرمایا کہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا بیٹے۔ اس کو کہتے ہیں، سستی فنا ہونا ۛ

●
 موجودہ نواب بہاولپور کے دادا اور پڑا دادا ڈاڑھی رکھتے تھے۔ تو ان کے وزراء کی بھی ڈاڑھیاں تھیں۔ مولوی رحیم بخش مرحوم وزیر تھے مگر ان کی ڈاڑھی تھی۔ اب نواب کے ڈاڑھی نہیں تو ان سب نے ڈاڑھیاں منڈوا دیں عوام حکمران طبقہ کے طور و اطوار کو اختیار کرتے تھے جدھر حکمران طبقہ کا رخ ہوتا ہے اُدھر ہی قوم کا رخ ہوتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جدھر انگریز جا رہا تھا ہمارا نوجوان بھی اُدھر ہی جا رہا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی نوجوان کا رخ اسی طرف ہے۔ وہ کوٹ پتلون پہنتا تھا یہ بھی کوٹ پتلون پہنتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا یہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اس نے ڈاڑھی منڈوانی شروع کی تو یہ بھی منڈوانے لگے۔ کرنل نے موچھیں صاف کر دیں تو انہوں نے بھی منڈوا دیں۔ انگریز نے فیشن ایبل بال بنوائے تو ہمارے نوجوان نے بھی اس کی تقلید کی ۛ

●
 میرے ایک دوست تھے۔ وہ تاجر مشینہ تھے اور ان کی تجارت لندن سے ہوتی تھی وہ درس باقاعدہ سنتے تھے۔ اس لئے ان کے خیالات صاف ہو گئے بیوی اور بچوں کو نہ لائے اس لئے وہ قرآن سے نا آشنا رہے۔ آخری عمر میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے میں ان کی بیوی پرسی کے لئے گیا تو انہوں نے

مجھے بتلایا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تو وہابی ہے۔ اس لئے تجھ کو دوسری منزل میں کھانا نہیں بھجوں گی۔ نیچے آکر کھاؤ۔ لڑکے بھی پرواہ نہیں کرتے:



اللہ والوں کی صحبت میں جاہل بھی یقین کی صفائی کو ترجیح دیتے ہیں اس سلسلہ میں حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کے لنگر میں کھجوروں کے درخت تھے۔ دارالاحفاظ کے بچے کچی کھجوریں توڑ کر کھاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے ان کی شکایت کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا۔ اللہ وریا ان بد معاشوں کو پکڑ کر لاؤ۔ تو میں ان کو سزا دوں۔ وہ جاہل مطلق تھا۔ مگر صحبت میں رنگ چڑھا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ کہ حضرت سب سے بڑا بد معاش تو میں ہوں۔ اس طرح اس نے حضرت کی طبیعت کا رخ پھیر دیا۔ اور آپ خاموش ہو گئے:



ایک بزرگ تھے۔ ان کی کسی ویندار سے دوستی تھی وہ اکثر ان کو ملنے کے لئے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ کافی عرصہ کے بعد تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لئے تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واپس آکر ان کے ورثا سے فرمایا کہ وگین چڑھا دیجئے اور جو آئے کھلاتے جائیے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوبارہ قبر پر گئے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کسی

اللہ کے بندہ کے پیٹ میں لقمہ گیا۔ اس کے منہ سے دعا نکلی جو بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گئی :



کسی بزرگ کا ایک قصہ مشہور ہے جو کہ درست ہونے کے علاوہ عبرتناک ضرور ہے۔ اُن کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اور عرض کی کہ حضرت! یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ اس کو نصیحت فرمائیے کہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ اس بزرگ نے کل آنے کے لئے فرما دیا۔ اگلے دن جب وہ اس کو لے کر آئی تو آپ نے فرمایا: ”بیٹا گڑ کھانا چھوڑ دو“ اس عورت کو بہت غصہ آیا۔ اور کہنے لگی۔ کہ اتنی سی بات کل ہی کہہ دیتے۔ اُس بزرگ نے فرمایا کہ کل تک مجھے خود گڑ کھانے کی عادت تھی۔ اس سے گڑ چھوڑنے کو کہتا تو اثر

نہ ہوتا۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے



میرے دادا پیر کے پاس کچھ عورتیں بیعت کے لئے حاضر ہوئیں (عورتوں کی بیعت قرآن سے ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو پارہ ۲۸ سورۃ الممتحنہ کی آخری سے پہلی آیت) ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ جو بلا وجہ ہنس رہی تھی حضرت دادا پیر نے فرمایا کہ بیٹی! اتنا ہنسو جتنا رو بھی سکو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کی حالت بدل گئی۔ اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر

سالاری عمر روتی رہی :

ایک دفعہ میں چکوال جا رہا تھا۔ کچھ فوجی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے
ان کے ہمراہ ایک مرانی بھی تھا۔ ان کی فرمائش پر اس نے ایک منزل سناٹی
جس کا پہلا شعر یہ تھا :

عاشقاں راسہ علامت اسے سپر

آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بعینہ یہی حالت تھی۔ بات بات آہ سرد
بھرتا اور روتا عام تھا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اس سے دل موم ہو جاتا ہے
اس قسم کے حضرات کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے :

ہدیے داد اپر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ رات ایک جنگل میں سیر
فرمانی پڑی۔ اس جگہ کے قریب ہی ایک جھونپڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
اس جھونپڑی کے رہنے والے بھینسوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتے
تھے۔ رات کو جب انہوں نے دودھ دوہا تو جس برتن میں دودھ رکھا تھا
اس میں کٹا منہ ڈال گیا جب لڑکوں نے اپنی والدہ کو اس کی اطلاع دی تو وہ
کہنے لگی۔ کہ دودھ ان فقراء کو دے آؤ۔ حضرت اور آپ کے خدام یہ سب
باتیں سن رہے تھے جب دودھ آیا تو کسی نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت!
دودھ آگیا ہے۔ فرمایا لے کر رکھ لو۔ جب دودھ اٹھا کر لانے والے واپس چلے

گئے۔ تو فرمایا کہ دو دو کو دریا میں گرا دو۔ یہ منع کی مثال ہے :

حضرت امروٹیؒ کے ہاں ایک دفعہ ایک ترمیز سدا ۵۰۰ روپیہ نذر لے کر آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کا بڑا خرچ ہے۔ میں یہ آپ کی امداد کے لئے دیا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ کہ حضرت غصہ سے لال ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ اٹھالے جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے بہت منت سماجت کی مگر آپ نے ایک نہ سنی اور ایک پیسہ بھی نہ رکھا۔ یہ ترک طمع کی مثال ہے :

حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروقی مرحوم جو وہابی مسلم ہوٹل انارکلی کی مسجد میں خطیب تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں دیوبند میں تسلیم سے فارغ ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مہتمول خاتون نے درخواست کی کہ مجھے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے استاد کی ضرورت ہے حضرت نے مجھے بھجوادیا۔ وہ خاتون میرے کام سے اتنی خوش ہوئی کہ اس نے مجھے کئی ہزار روپے دے کر کہا کہ جہاں تمہارا دل چاہے خرچ کرو۔ میں نے وہ روپیہ لاکر حضرت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو فرمایا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے :

طوشاکا جو آج کل ملتان میں رہتے ہیں اور میرے حضرت کے خدام میں سے

ہیں۔ انہوں نے ایک جوتا تحفہ بھیجا۔ تو حضرت شیخ الہند نے وہ سر پر رکھ لیا۔
 طور شاہ کا جوتا محبوب اور ایک عورت کا کٹی ہزار روپیہ نامنظور ہے

کابل کی صحبت مدت مدید تک نصیب ہو۔ تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
 حضرت دین پوری کے ایک خادم تھے جو دلہا رسٹیشن سے دو ڈھائی میل کے
 فاصلہ پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ نواب بہاول پور کے رشتہ دار تھے۔ ان کے
 ایک ہمسایہ نے حضرت دین پوری کے پاس آکر شکایت کی کہ آپ کے خادم نے
 میری کچھ زمین دہالی ہے۔ حضرت نے ان کو بلایا۔ اس نے لکھ کر بھیجا کہ حضرت
 زمین میری نہیں۔ آپ کی ہے جتنی مانگتا ہے دے دیجئے۔ مجھے آنے کی ضرورت
 نہیں۔ عام زمیندار چپہ چپہ زمین کے لئے لڑتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا
 اثر تھا کہ ایک زمیندار اپنی ساری زمین دینے کے لئے تیار ہے اور وہ بھی
 اس صورت میں کہ مدعی کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا۔

حضرت امروٹی کا واقعہ ہے کہ کسی شخص نے ان کے لنگر کے لئے زمین دی۔
 اس کے ورثاء نے حضرت کے پاس آکر اپنا حق جتا کر زمین واپس مانگی۔ تو آپ نے
 انڈر سے دستاویز لا کر جلا دی اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ۔ میرا یہی دستاویز
 ہی قبضہ تھا جو میں نے جلا دی ہے۔

اپنے مکان کے سلسلہ میں بھی میں نے حضرت امروٹی کی پیروی کی۔

مولوی امام الدین صاحب مرحوم پرائمری سکول کے مدرس تھے۔ ان کے اکبری منڈی کے پاس تین مکان تھے۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک مکان دے دوں۔ میں نے بہت اچھا کہا اور وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر آئے کہ مجھے دوبارہ حکم ہوا ہے۔ میں نے پھر بہت اچھا کہہ دیا۔ اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کافی مدت کے بعد وہ پھر آئے کہ آج تو مجھے بہت ڈانٹا گیا ہے۔ کہ کیا تمہیں اپنی زندگی پر بھروسہ ہے؟ چلے چل کر پندرہ لچھے چنانچہ میں نے جا کر ایک مکان پسند کر لیا۔ مولوی امام الدین صاحب نے اس کی رجسٹری کروادی۔ میں نے اس مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ میری عادت ہے کہ میں گھر طری دیکھ کر نماز کے لئے آتا ہوں۔ وہاں سے جب میں نماز کے لئے آؤں۔ تو راستہ میں کبھی کوئی دوست مل جائیں، کبھی کوئی۔ ان سے باتیں کرنے میں کبھی میری ایک اور کبھی دو رکعت قضا ہو جائیں۔ میں نے مولوی امام الدین صاحب کو بلا کر کہا کہ آپ نے مجھے اشاعتِ دین کے لئے مکان دیا تھا۔ مگر میرے دین میں نقص پیدا ہو رہا ہے آپ یا تو مجھے اس مکان کو بیچ کر لائٹن سبجان خان میں دوسرا مکان بنانے کی اجازت دے دیں۔ اس سے آپ کے مکان کی صورت بدل جائے گی۔ لیکن سیرت وہی رہے گی۔ یا پھر آپ مکان واپس لے لیں۔ جس خدا نے مجھے آج تک کرایہ دیا ہے۔ وہ آئندہ بھی دے گا۔ مولوی امام الدین صاحب نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی۔ اور ان کے مکان کو بیچ کر میں نے اپنا موجودہ مکان بنا لیا۔

حافظ عبدالرحمن صاحب مرحوم اس سب میں امام تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل سلامت تھیں۔ مگر ان میں نور نہ تھا۔ وہ متوکل علی اللہ تھے۔ کسی سے طمع نہ تھی۔ خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکوا کر کھاتے تھے۔ نہ وہ کسی سے مانگتے تھے اور نہ امامت کی تنخواہ لیتے تھے۔ نہ وہ ختم درود کے قائل تھے۔ اعلیٰ درجہ کے قاری اور حافظ قرآن تھے۔ درس میں جب کبھی میں کسی آیت کے متعلق پوچھتا تو فوراً بتلاتے تھے۔ بعض لوگ جب ان کی امامت پر اعتراض کرتے تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ان خوبیوں والا مجھے پتہ امام لادھیٹے۔ تو میں رکھ لوں گا۔



دنیا دار شادی پر زیر بار ہو جاتے ہیں۔ آج ہی میں مولوی حمید اللہ کی شادی کر کے آیا ہوں میں نے نہ کچھ دیا۔ اور نہ لیا۔ لڑکی والوں نے اگر کچھ دیا تو اپنی بیٹی کو دیا۔ ہم نے اگر کچھ دیا تو اپنی بہو کو دیا۔ دنیا دار کے لئے شادی عذابِ الہیٰ من جاتی ہے۔ قناتیں اور شامیانے آرہے ہیں۔ میزیں اور کرسیاں آرہی ہیں۔ ہمارا ولیمہ فرشِ زمین پر ہوگا۔ ہماری برادری یہاں بیٹھی ہے۔ کل رات وہاں آرام سے سوئے تھے۔ آج..... یہاں آرام سے سوئیں گے۔ نہ شادی کی فکر تھی اور نہ ولیمہ کی فکر ہے۔



میرے لئے لڑکیوں کی شادیاں بھی اسی طرح کی تھیں۔ مولوی عبدالحمید صاحب سوہدرہ والوں نے مجھے خط لکھا۔ کہ مجھے رشتہ کی ضرورت ہے میں نے ان کو لکھا۔ کہ مجھے ملے۔ وہ آئے تو میں نے ان کو بتلایا کہ لڑکی فلاں

فلاں کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ اسکول میں نہیں پڑھی۔ اپنی والدہ سے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو لاکر دکھاؤں۔ میں نے کہا کہ گھر والوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے گھر والے دیکھ لیں۔ میں نے کہا۔ ہمارے گھر والوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اگر رشتہ منظور ہو تو لے لیں۔ ورنہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ فلاں رشتہ احمد علی نے پیش کیا تھا۔ اور میں نے انکار کیا۔ کہنے لگے نہیں کروں گا۔ پھر میں نے کہا کہ میری لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اور لڑکی کو رخصت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جلسہ پر باہر جانا ہے۔ وہاں سے واپس آؤں گا تو نکاح کر دیجئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زیور وغیرہ کیا لاؤں۔ میں نے کہا کچھ لانے کی ضرورت نہیں جو آپ نے دینا ہے گھر لے جا کر دے دیجئے گا۔ ہم نے جو دینا ہے وہ بند کر کے دے دیں گے۔

کابلے میں ایک مجذوب تھے لوگ پھلوں کے ٹوکریں لٹے ان کے دروازہ پر کھڑے رہتے کہ وہ بانہر نکلیں تو پیش کریں۔ یہ پھل بظاہر طیب لیکن حقیقت میں خبیث تھے۔ وہ جب نکلتے تو فرماتے۔ ہرید پیش سگال بانڈا زید (لے جاؤ کتوں کے آگے ڈال دو)۔

حاجی مولابخش صاحب ایک یونٹ بننے تک حکومت سندھ میں وزیر تھے۔ وہ اللہ الشکر کرتے تھے اور وہ اس سے پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک نواب صاحب نے اپنا ایک نمائندہ میرے پاس بھیجا اور اس نے مجھ سے آکر کہا کہ آپ نواب صاحب کا کام کر دیں۔ تو وہ آپ کی خدمت کر دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نواب صاحب کا کام کر دوں گا۔ لیکن لوں گا کچھ نہیں۔ اس سے اس کی تسلی نہ ہوئی اس نے پھر وہی کہا میں نے پھر وہی جواب دیا تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے زنا نہیں کروانا چاہتا۔ جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کی بیویاں زنا کرتی ہیں۔

انص کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی بیوی لاہور آئی۔ تو انارکلی میں اس کا بٹوا کہیں گر گیا۔ بٹوے میں کچھ سونا اور نوٹ تھے۔ اس نے جب واپس جا کر واقعہ سنایا تو ان کے لڑکے کہنے لگے کہ اباجی! آپ تو کہا کرتے ہیں کہ میری آمدنی حلال کی ہے اس لئے کبھی ضائع نہیں جا سکتی۔ یہ بٹوا کیسے ضائع ہو گیا۔ حاجی مولابخش صاحب کا بیان ہے کہ میں خاموش ہو رہا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ چند دنوں کے بعد مولابخش شکا پور کے پتہ پر ایک کارڈ آیا پوسٹ میں وہ کارڈ ان کو دے گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بٹوا ملا ہے وہ اگر آپ کا ہے تو اشیاء کی فہرست بتلا کر لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو فہرست بھیجی۔ تو سب کچھ جو

بٹوے میں تھامل گیا۔ اتفاقاً اس میں ان کے نام کا چھپا ہوا کارڈ تھا جس پر
صرف ان کا نام اور تھکار پور لکھا ہوا تھا۔ بٹوہ ایک ہندو وکیل کی لڑکی
کو ملا۔ اس نے اپنے باپ کو دے دیا۔ اگر وہ چاہتے تو ہضم کر سکتے تھے۔



صبر سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں چیف جج تھے انہوں
نے مجھے ایک دفعہ بتلایا کہ میں نے ساری عمر سائیکل بھی نہیں رکھی۔
ہمارے ہاں معمولی ڈاکٹر اور وکیل موٹریں رکھتے ہیں۔ میرا صاحب
دورے پر جاتے تو نوکر کو حکم تھا کہ مجھ سے پیسے لے کر ہر چیز لاکر پکایا کرو
ایک دفعہ نوکر نے لکڑیوں کے پیسے نہ لئے تو اس سے پوچھا کہ لکڑی
کہاں سے آئی۔ اس نے بتلایا کہ جنگل میں پڑی ہوئی تھیں میں اٹھا لایا۔ میر
صاحب نے اس دن دوسری جگہ جانا تھا وہاں نہیں گئے۔ اس پاس کے لوگوں
سے دریافت کر کے مالک کو پیسے دئے تو آگے گئے۔ ان کی حلال کمائی کی
برکت سے اللہ نے ان کو میر عبد الجمیل صاحب بیٹا عطا فرمایا۔ وہ
آج کل بہاولپور میں جج ہیں۔ ایک دن ان کو نواب صاحب نے بلایا
تو جو کوٹ پہن کر گئے وہ پھٹا ہوا تھا۔ نواب صاحب بہت خفا ہوئے
تو عرض کی کہ اتنی تنخواہ ملتی ہے۔ اتنی آجی کو دیتا ہوں۔ اتنی بھتی ہے
اس میں سے میں کوٹ بھی نہیں بنوا سکتا۔ یہ میرے پاس بہترین کوٹ
ہے۔ ایک دفعہ نواب صاحب نے ایک بلوم کے متعلق سفارش لکھ
بھیجی۔ ان کو بھی پتہ چل گیا جو سفارشی چٹھی لایا تھا۔ اس کو باہر بٹھا کر بلوم

کو سزا دے دی۔ اس کے بعد اس کو بلایا۔ نواب صاحب کو معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے تو انصاف کا تقاضا پورا کر کے اس کو جیل بھیج دیا ہے۔ آپ مالک ہیں اس کو رہا کر دیں۔ یہ جرات حلال چیزوں سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔



پاگل پاگلوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی نجومی نے بتایا۔ کہ فلاں وقت ایک ہوا چلے گی جس کو وہ لگ جائے گی وہ پاگل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ اس سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے۔ نجومی نے جواب دیا کہ ہاں..... کسی تہ خانے میں جو اس دن چھپ جائے گا وہ بچ جائے گا جب وہ وقت آیا تو بادشاہ اور وزیر تہ خانہ میں چلے گئے۔ وہ دونوں بچ گئے۔ باقی سب رعایا پاگل ہو گئی۔ کپڑے پھاڑ ڈالے اور ننگے ہو کر نا چنے لگے۔ جب بادشاہ اور وزیر کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو ان کا مذاق اڑائیں۔ اور ان کو پاگل بتائیں۔ چند یوم کے بعد وہ دونوں تنگ آ گئے۔ انہوں نے نجومی سے پھر دریافت کیا کہ اب کوئی ایسی تدبیر بتلاؤ کہ ہم بھی پاگل ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اس دن کاٹھکے میں سچا ہوا پانی ہو تو پی لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور پاگل ہو گئے۔ اب جب وہ ان کے ہم رنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب کہنے لگے بادشاہ سلامت آ گئے۔

کندر ہم جنس با ہم جنس پروانہ کنبوتر با کنبوتر باز با باز

میدے پاس ایک دفعہ ایک پولیس انسپیکٹر آیا۔ بڑا قوی مسلک اور چھو
 فٹ قد کا تھا۔ سر فضل حسین، سر محمد شفیع اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کی تحریریں
 اس نے مجھے دکھائیں کہ یہ واقعی امداد کا مستحق ہے۔ میں نے جب اس سے
 کہا کہ اس وقت دفتر بھی بند ہے اور کوئی بھی موجود نہیں تو وہ مجھ سے
 کہنے لگا۔ کہ دانا لحفاظ کے بچوں سے ہی پیسہ پیسہ جمع کر کے مجھے دے دیجئے
 دیکھنا آپ نے کہ کسی غریب کی آہوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟

ایک دفعہ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ ان
 کی موجودگی میں میں نے تقریر کی حضرت نے پانچ روپہ چندہ بھی دیا۔ اور
 خلیفہ شہاب الدین سے فرمایا کہ تم ان کی تقریر لکھ کر چھپواتے کیوں نہیں
 تاکہ باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ یہ ان کی دعا کی برکت ہے
 کہ اب تک نوا لاکھ سے زائد رسالے چھپ کر تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان کے
 علاوہ اور کئی مطبوعات بھی ہیں؟

حضرت مولانا عبداللہ صاحب لغاری سکنہ سانگھڑ نے مجھے ایک
 معمر شخص کا واقعہ سنایا جو ان کے پاس پڑھنے کے لئے آیا۔ پچھلے دنوں
 جب میں سندھ گیا تھا تو مولانا عبداللہ صاحب لغاری کے ہاں ایک
 نوجوان نے مجھے بتلایا کہ وہ معمر شخص میرا چچا تھا۔ وہ شخص قرآن مجید اٹھا
 جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے ایک گڈریا ملا۔ جب گڈریا نے اس سے پوچھا

کہ تمہارے سر پر کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ سندھ میں زیادہ تر لوگ قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ گڈریا نے کہا کہ مجھے کلام اللہ پڑھ کر سناؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میرا وضو نہیں ہے جہاں پانی ملے گا وہاں وضو کر کے تمہیں سنا سکتا ہوں۔ گڈریا اپنے مولشی چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب پانی ملا تو اس نے وضو کر کے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ گڈریا نے پھر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تاکہ ہم اسی طرح عمل کر کے اس کو راضی کر سکیں۔ یہ شخص خود بھی قرآن دان نہ تھا۔ اس لئے اس سے کہنے لگا کہ کلام اللہ کا مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا۔ لیکن گڈریا کی بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

اسی دن سے اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی عرض کے لئے مولانا عبد اللہ صاحب لغاری کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے جب پوچھا کہ اس عمر میں تمہیں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا۔ تو اس نے سارا واقعہ عرض کیا:

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادہ مزاج تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جامع صفات بزرگ تھے۔ ایک دفعہ دیانند سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ پنڈال

میں تیل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو دروازہ پر چہرہ اسی نے
 روک کر کہا کہ ارے بڑھے! تو اندر جا کر کیا کرے گا۔ فرمایا میں بھی سنوں
 گا۔ جب آپ نے تقریر فرمائی تو خود ہندوؤں کا بیان ہے کہ ایسے معلوم ہوتا
 تھا کہ مولانا کبے منہ سے علم کی دیوی بول رہی ہے :

حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروقی چنگڑ محلہ (انارکلی) لاہور
 یہیں رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں جب حج پر گیا تو حضرت مدنی
 رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں قیام فرماتے تھے۔ میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو دیکھا کہ
 حضرت پھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس تشریف لائے میں
 نے جب عرض کی کہ حضرت کیسے تشریف لائے تو فرمایا کہ تمہیں کیوں بتلاؤں۔
 ان کا بیان ہے کہ آپ دراصل مجھے لینے کے لئے آئے تھے تھوڑی دیر بعد
 فرمانے لگے کہ پانڈان گم کر آئے ہونا یہ حضرت کے ماضی کے متعلق کشف
 تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضرت ملے گا بھی یا نہیں۔ تو فرمایا۔ ہاں ہاں مل
 جائے گا۔ مستقبل کا کشف تھا۔ چنانچہ وہ مل گیا :

حضرت دین پوری نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بیت الخلاء
 میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل کا یہاں موقع
 نہیں۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ کہ جب سب لطائف چل نکلیں تو
 بیت الخلاء میں بھی وہ خود بخود جاری رہیں گے اور وہاں بھی نہ کریں گے

گھڑی کی مشینری جب چلتی ہے تو ہر حالت میں چلتی رہتی ہے خواہ انسان
کسی جگہ ہو۔



ایک دفعہ ایک شخص مورخ دروازہ سے میسر پاس آیا اور اس نے
ایک برات کا واقعہ سنایا۔ وہ برات فقیر النوالہ دروازہ سے گئی تھی۔ باجہ
ساتھ نہ تھا۔ ایک جگہ لوگ ٹولیاں بن کر باتیں کرنے لگے۔ اس کا بیان ہے
کہ میں بھی ایک ٹولی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان
وہابیوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ انہوں نے باجہ بھی اڑا دیا۔ گویا باجہ بھی جزو
دین ہے۔



حضرت امروٹی جو شجرہ میں بائیں طرف ہے۔ ان کا ایک خادم
عبدالستار ہے۔ اب بھی زندہ ہے اور نیم پاگل سا ہے مگر کابل کا عکس
اس پر پڑا ہوا تھا اس لئے اعلیٰ درجہ کا توجید پرست ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی
بزرگ کے مزار پر گیا۔ وہاں عورتیں اولاد کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ان سے
کہنے لگا کہ مائی! اولاد قبروں والے نہیں دیتے۔ بلکہ اولاد خاوندوں سے
ملتی ہے۔



ایک دوسرے خادم کا واقعہ سنئے وہ گڈریا تھا۔ ایک دفعہ ایک پیر
صاحب نے اس کے ریور کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کی حفاظت کے لئے گڈریا

کیوں نہیں رکھتے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت اب تو میرا اعتماد اللہ پر ہے کہ وہی میری بھیر بکریوں کی حفاظت کرے گا۔ کیا میں اللہ سے اعتماد اٹھا کر کتے پر کرنے لگوں؟ یہ صحبت کا اثر ہے۔



حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں عطا فرما رکھی تھیں۔ اب تو ماشاء اللہ ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ ان کے ایک پوتے مولوی سراج احمد صاحب کچھ دن ہوئے یہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت دین پوری نے جب کسی صاحب زادی کا نکاح کرنا ہوتا تو ہماری اماں سے فرما دیتے کہ بچی کو نہ ہلا کر نئے کپڑے پہنا دینا۔ نماز عشاء کے بعد داماد کو بلا کر نکاح پڑھا دیتے۔ کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی شادی ہونے والی ہے۔ اب ان کے صاحب زادے مولوی میاں عبداللہ زادی صاحب گدی نشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وہ ماشاء اللہ عالم ہیں۔ یہاں سے قرآن پڑھ کر گئے ہیں۔ ان کے ماں بھی یہی دستور ہے۔ انہوں نے اپنی ایک صاحب زادی کے لئے مجھے لاہور سے بلایا۔ لیکن لڑکے کے باپ کو پتہ نہیں۔ کہ ان کے لڑکے کی شادی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس کام کے لئے بلایا ہے۔ اب انہوں نے اپنی دوسری صاحب زادی کا نکاح ایک نو مسلم سے کیا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔



مجھ سے آج تک کسی نے لڑکی کا رشتہ نہیں مانگا۔ لڑکی جب بالغ

ہو جاتی تھی تو ان کی والدہ مجھے بتلا دیتی تھیں۔ تو مجھے چونیک آدمی ملتا
 اس سے شادی کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک لڑکی کا نکاح
 جب ایک لوہار سے کرنے کا خیال ظاہر کیا تو میری بیوی مجھ سے
 کہنے لگی کہ اس کو لوہاری تو نہ بنائے۔ کم از کم کسی مولوی کو تو دیکھئے۔ وہ
 اس قدر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس لئے اس نے یہ بات کہہ دی۔
 وہ لڑکا میرے درس میں آتا تھا۔ میں اس کو نیک سمجھتا ہوں وہ باہر
 دیہات میں جا کر تبلیغ بھی کیا کرتا تھا:

دو سال ہوئے اسی طرح مولوی انور کی شادی کی۔ صرف براتی مولوی
 عبد المجید صاحب تھے۔ دولہا کا چھوٹا بھائی مولوی حمید اللہ، ان کے
 چچے حکیم رشید احمد صاحب اور میں گئے۔ اونہ نکاح پڑھا کر لڑکی کو لے
 آئے۔ ولیمہ پر مولوی انور کی ساس نے بہت زور لگایا کہ میری سہیلیاں
 آئیں گی اس لئے فرنی زردہ پکایا جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی
 توفیق دے رکھی تھی لیکن چونکہ میں ہمیشہ سادگی پر زور دیا کرتا ہوں اس
 لئے میں نے اس کو صاف صاف جواب دیا کہ بازار سے نان منگو کر
 اور سالن گھر میں پکوا کر کھلا دیں گے۔ اسی طرح مولوی حمید اللہ کی
 شادی پر کیا۔ مولوی عبد المجید صاحب کے کہنے پر صرف ایک آدمی
 کو ساتھ لے لیا تاکہ اگر لڑکی والوں نے کچھ سامان دے دیا تو وہ اٹھا سکے:

ایک دفعہ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم لاہور میں شریف اور دین دار رشتہ کی تلاش میں مجھ سے ملا چونکہ وہ میرے حضرت کا خادم تھا اس لئے میں نے اپنی بیوی اور ایک عورت کو اس کو کھٹی میں ظہر کے وقت بھیجا۔ جہاں وہ اپنا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ دنیا دار تو سوٹ چائے کے سیٹ اور صوفاسیٹ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن بہار اسیٹ اور ہے ع

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

میری بیوی نے وضو کے لئے لوٹا مانگا تو معلوم ہوا کہ کو کھٹی میں لوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح وضو تو کرا دیا۔ اس کے بعد جب مصیبتی مانگا تو وہ بھی موجود نہ تھا۔ بڑی تلاش کے بعد دوسری یا تیسری کو کھٹی سے منگوایا گیا:



ایک دفعہ میں اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم ایک رئیس کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں حضرت مولانا اتنے تنگ ہوئے کہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تم نے مجھے جیل خانہ میں ڈال دیا۔ مجھے جلدی یہاں سے نکالو۔ اللہ والوں کو دنیا کی چیزوں سے بو آتی ہے شریعت نے حرام کی تاثیر کو تسلیم کیا ہے۔ زندگی کی حرام کی کمائی سے بنی ہوئی مسجد کو شریعت مسجد تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اجازت لے کر حضرت مولانا کے گاؤں میں ایک چھپر میں آ گئے۔ وہاں ان کو چین آیا:



حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملین میں سے تھے۔ ایک دفعہ
 سنگر کا مال کشتی میں آ رہا تھا تو آپ کو کسی خادم نے آ کر اطلاع دی۔ کہ
 حضرت کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ اور قریب الغرق ہے۔ فرمایا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ تَخَوُّرِی دیر بعد پھر کسی خادم نے عرض کی کہ کشتی بھنور سے
 نکل کر صحیح سلامت کنارے پر پہنچ گئی۔ آپ نے پھر فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 کسی بے تکلف خادم نے عرض کیا کہ حضرت! پہلی دفعہ تو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ فرمانا چاہیے تھا۔ الحمد للہ فرمانا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا
 کہ نہیں نے پہلی دفعہ بھنور میں کشتی کے پھنس جانے پر الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا اور
 نہ دوسری دفعہ اس کے صحیح سلامت کنارے پر پہنچ جانے پر کہا میں نے
 ان دونوں صورتوں میں دیکھا کہ میرے دل کا جو تعلق اللہ کی ذات سے
 تھا۔ اس میں خلل نہیں آیا۔ میں نے اس نعمت پر دونوں دفعہ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ساز و سامان سے ہٹا کر اپنی محبت میں لگا
 رکھا ہے۔



حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سنگر میں ایک
 بڑاھیار بہتی تھی جو جماعت کی خدمت کیا کرتی تھی ریخیال رہے کہ مردوں
 کی طرح عورتیں بھی اللہ والوں کے ہاں جمع ہو جاتی ہیں تاکہ اللہ کا نام سیکھیں
 ایک دفعہ وہ حضرت سے اجازت لے کر اپنے گاؤں گئی واپسی پر کسی نے
 رنگ دار دوپٹہ دے دیا وہ اس نے اوڑھ رکھا تھا جب سنگر میں پہنچی

تو حضرت نے اُس کو دیکھ لیا۔ فرمایا کہ اس کو لنگر سے نکال دو نہ معلوم یہ رسول اللہ کی امت کے کتنے انسانوں کا ایمان خراب کر کے آئی ہے۔



جب میں نے مدرسہ قاسم العلوم بنایا تو غیر تو پہلے ہی خلاف تھے۔ اپنے بھی خلاف ہو گئے۔ اخبارات میں میرے خلاف مضامین شائع کئے گئے خبریں شائع کرائیں۔ اور اپنے مواد بہم پہنچائے۔ اندھوں کے سکول میں جلسے کئے گئے۔ غازی خدابخش صاحب غصے میں بھرے ہوئے ایک دن میرے پاس آئے کہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم جواب دیں ہمارے ہاتھ میں بھی قلم ہے۔ ہمیں بھی لکھنا آتا ہے۔ اور ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ میں نے ان کو ٹھنڈا کر کے بھیج دیا میرے خلاف یہاں تک بہتان طرازی کی گئی کہ میں نے یہ مدرسہ عورتوں کے رکھنے کے لئے بنایا ہے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا۔

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمُفْتُونَ (پس عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے)

تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرے خلاف کفر کا فتوے لینے کے لئے لکھا گیا۔ انہوں نے ان کو غلطی پر اور مجھے حق پر ثابت کیا۔ بعض دوستوں نے وہاں سے فتوے کی نقل منگوا کر وکیلوں بھی مشورہ کیا۔ تاکہ ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے وکیلوں نے کہا کہ احمد علی دعویٰ کر سکتا ہے۔ مولوی کریم بخش صاحب

جو گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر تھے وہ مخلص تھے مگر مخالفین کے بہکاو سے ہیں آکر تیسرے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ ایک دن میرے بڑے لڑکے مولوی حبیب اللہ سے ملے اور کہنے لگے کہ تیرے باپ میں ایک خوبی دیکھی ہے کہ اس نے مخالفین کے حق میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ مدرسہ قاسم العلوم کے مقابلہ میں مدرسہ بتایا گیا۔ انجمن خدام الدین کے مقابلہ میں انجمن بنی لیکن نہ مدرسہ رہا نہ انجمن رہی۔

ایک عالم جس نے مجھ سے قرآن مجید پڑھا تھا حنفیت سے علیحدہ ہو کر اہلحدیث ہو گئے تھے وہ ایک دن مجھے دیکھ کر سوڑیاں والی مسجد میں گھس گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا اور پیچھے سے جا کر ان کو بغل گیر کر لیا۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ میرے دونوں مربیوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہستی فنا کر دی ہے۔

صلیوں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم مولوی محمد شریف تھے فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین۔ ان کے مکان کو ایک دفعہ آگ لگ گئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ سامان نکال کر باہر رکھیں اور یہ اٹھا کر پھر آگ میں ڈالتے جائیں۔ کسی نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے کہ جس نے دیا تھا جب وہی جلانا چاہتا ہے تو ہمیں بچانے کا کیا حق ہے۔

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سواد می کی گھوڑی چوری ہو گئی۔ ساری جماعت کہے کہ گھوڑی کے خادم کے ذریعے چوری ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو حوالہ پولیس کرنے کی اجازت دی جائے لیکن حضرت یہی فرمائیں کہ نہیں۔ نہیں اس کو رہنے دو:



ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لئے بلایا میں حاضر ہوا تو وہ حجامت بنوارہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے سوال کر دیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب نوجوان زیادہ تر مرزائی کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب! روٹی کے لئے۔ مرزائی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ اور نوکر بھی کر دیتے ہیں۔ نوجوان کو اور کیا چاہئے۔ بیوی بھی مل گئی اور روٹی کا سوال بھی حل ہو گیا:



حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر حبیلابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ فضا میں آسمان میں ایک نورانی تخت بچھا گیا اور اس پر ایک نورانی شکل جلوہ افروز ہوئی۔ جس نے مجھے آواز دی۔ کہ اے عبدالقادر ہم نے تمہیں نمازیں معاف کر دیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا۔ ان شاء اللہ العین (اے لعین ذلیل ہو) میرا یہ کہنا تھا کہ نہ تخت رہا اور نہ تخت نشین۔ اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا۔ ورنہ میں نے اس مقام پر اتنے اولیاء کو گمراہ کیا ہے کوئی جاہل پیر ہوتا

تو اپنے مریدوں سے کہتا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز میں معاف فرمادی ہیں جو میری بیعت کرے گا اس کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔



مدینے بے چین کا ایک واقعہ ہے کہ میں مولانا عبد اللہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ حضرت مولانا نے وقت دیکھنے کے لئے گھڑی جیب سے نکالی میں نے ان کی گھڑی پر مقناطیس رکھ دیا گھڑی خراب ہو گئی اور پھر بھی صحیح نہ ہوئی۔



حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو میر کے حضرت کے خادم خاص اور خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت امری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ کسی بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ اس دعوت میں سب نے کھانا کھایا۔ حضرت بیٹھے رہے اور کھانا نہ کھایا۔ صبح حضرت نے میر بان سے پوچھا رات روٹیاں کس نے پکائی تھیں۔ اس نے کہا حضور کی خادمہ نے۔ حضرت نے پوچھا اور کون سا تھا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ میری بہو سا تھ پیڑے بنا بنا کر دیتی جاتی تھی۔ حضرت نے پوچھا وہ نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت وہ نماز نہیں پڑھتی۔ حضرت نے ایک دوسری پابند صوم و صلوة خادمہ کو فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ

سے آٹا گوندھ کر روٹی پکالائے۔ ہم نے رات اسی وجہ سے کھانا نہیں کھایا:

حضرت امروٹی کے بڑے خلیفہ حضرت مولانا عبدالعزیزؒ سکھ تھریجانی ضلع سکھرتھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت ان کے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے صرف ۱۵-۲۰ آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا۔ عبدالعزیزؒ! روٹیوں اور سالن پر کپڑا ڈال کر کھلانا شروع کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جتنے لوگ موجود تھے سب کھا گئے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی پ:

پیو گھاڑا رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شجرہ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا پا جامہ پھٹ گیا۔ اس نے عرض کی کہ پا جامہ پھٹ جانے کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور پا جامہ بنا دینے کی فرمائش کی۔ اس پر حضرت نالاض ہو گئے کہ مجھ سے کیوں کہا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگا۔ اور کئی دن تک میں تشریف نہیں لے گئے اس کے بعد کہیں سے سو سی کا تھان آیا تو اس کو لے کر اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ دنیا کے طالب کے لئے دنیا آگئی ہے پ:

فخر یہاں نہیں! تحدیثِ نعمت کے طور پر دو باتیں عرض کرتا ہوں میرے

گھر والوں کو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔
 مولوی انور سے بڑے لڑکے کا نام بھی انور تھا۔ اس کا بچپن ہی میں انتقال
 ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک شخص چاولوں کی پلیٹ میرے گھر لایا۔ بچہ
 لے جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے: بے بی بی اللہ میٹھ کھلوتے تھے کہندے
 پلیٹ جلدی دیہلی کر کے لیا! امی جان! اللہ تعالیٰ نیچے کھڑا ہے اور کہتا ہے
 کہ پلیٹ جلدی خالی کر کے لے آؤ! کچھ دن تک جب کوئی چیز نہ آئی تو ایک
 دن یہی بچہ کہنے لگا۔ ہن پچا اللہ آپ کھاندا ہووے گا سانوں نہیں بھیجدا (اب
 اللہ خود کھاتا ہوگا ہم کو نہیں بھیجتا) :

اس سے چھوٹی ایک سچی کا واقعہ ہے وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی
 اس نے ایک دن ہمسایوں کے دروازہ پر ایک دھیلہ پڑا ہوا دیکھا۔ ماں
 سے آکر کہتی ہے کہ شیطان تاں کہندا سی چک لے۔ میں آکھیا نہ اللہ مارے
 گا! شیطان تو کہتا تھا! مٹھا لو میں نے کہا نہیں اللہ مارے گا)

حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا خادم تھا وہ بلوچستان کا
 رہنے والا تھا۔ اس علاقہ میں ایک قبر تھی جس پر لوگ اونٹوں کا چڑھاوا چڑھا
 تھے۔ حضرت کے خادم کو اس کا بہت دکھ تھا۔ ایک دن اس نے قبر کو کھودنا
 شروع کر دیا اور غلافوں کو آگ لگا دی۔ بلوچوں کو پتہ چلا تو اس کو اتنا مارا کہ
 ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ اور ایک زمیندار کے ڈیرہ میں اس کو ڈال آئے جہاں

وہ مدت تک نیم مردہ پڑا رہا۔ اس کی ماں اس کو روٹی کھلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی ہڈیاں پھر جڑ گئیں۔ اس کو یہ سزا توحید پرستی کے جرم میں ملی تھی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا :

ہمارے پڑاوا پیر کے ماں ایک عورت ڈاکر تھی۔ وہ نکاح نہیں کرتی تھی حضرت نے حکماً اس کا نکاح کرادیا۔ اُس نے کہا۔ کہ میں اس سے نکاح کروں گی جو جھوٹ نہ بولے۔ نکاح ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا۔ ایک دن باپ بچے کو بہلا رہا تھا اور ماں پانی بھرنے جا رہی تھی۔ بچہ رو رہا تھا۔ باپ نے بچے کو کہا کہ چپ کرو وہ تمہاری ماں آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ جا رہی تھی۔ عورت نے یہ سنا اور اس سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تیرا میرا نکاح نہیں رہا۔ کیونکہ شرط یہ تھی کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا :

ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک سانپ کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا۔ کہ فلاں شخص کو ڈسنے کے لئے جا رہا ہوں۔ یہ بزرگ اس شخص کے مکان پر پہلے پہنچ گئے۔ اس نے عورت سے بٹھایا اور خوب خاطر مدارت کی۔ یہ کھانا کھا چکے تو سانپ سانپ کا شور ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سانپ نے صاحب خانہ کو ڈسنا چاہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس بزرگ نے سانپ سے واپسی پر پوچھا کہ ڈس آئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ نے کھانا کھا لیا

تھا۔ اس لئے میرا وار کار گرنہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دعا سے بلا ٹل گئی :



• صدیقے حضرت دین پوریؒ کا ایک واقعہ عرض کیا کرتا ہوں۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا۔ پہلے وہ دادا پیرؒ کا مرید تھا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت دین پوریؒ سے متعلق رہا۔ لیکن کسی وجہ سے وہ حضرت سے ناراض ہو گیا۔ اور تقریباً ۳۰، ۳۵ سال حضرتؒ کے خلاف مقصدیہ بازی کرتا رہا۔ میں عقیدت کی بنا پر نہیں، بلکہ بصیرت سے کہتا ہوں کہ حضرتؒ کا درجہ بڑے بڑے اولیاء کرام سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ حضرت کے خدام میں سے کسی کی ہندوق سے اس شخص کا کٹا مر گیا۔ اس نے حضرت پر دعویٰ دائر کر دیا۔ کہ آپ نے میرا کٹا مار ڈالا ہے۔ پولیس حضرت کو جانتی تھی، اس لئے اس شخص کو تنگ کرنے کے لئے اس سے کہتی کہ کٹا اٹھا کر لاؤ تاکہ اس کا پورٹ مارٹم کرایا جاسکے۔ کئی دن متواتر وہ کٹا اٹھا کر لے جاتا رہا۔ اور پولیس اسی سے اس کے گوشت کو چیرا دلواتی تھی تاکہ رپورٹ مکمل ہو جائے کہ کہاں کہاں چھترے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے سرکاری زمین سے ایک درخت کاٹ لیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حضرت کو جب اس کی گرفتاری کا پتہ چلا تو آپ نے سفارش فرمائی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرتؒ نے فرمایا کہ اس کو ضرورت ہوگی اس لئے درخت بھی ولا دیا۔ حضرتؒ نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ حج کے لئے جانے لگے تو خود چل کر اس کے ہاں تشریف لے گئے اور

اس سے معافی مانگی، جب حج سے واپس آئے تو اس شخص نے حضرت کی دعوت کی۔ سارے متعلقین کا خیال تھا کہ وہ حضرت کو کھانے میں زبردستی لے گا۔ اس لئے سب نے اس دعوت کو منظور کرنے کی مخالفت کی لیکن حضرت نے منظور فرمایا:

ایک لڑکی میرے پاس آئی جس کے نانے کا میرے ساتھ بیعت کا تعلق تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا خاوند دو ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ مگر گزارہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے حسبِ سابق جواب دیا۔ کہ بیٹی رزق میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں اور میری اولاد دنیوی اعتباراً سے کوئی کام نہیں کرتے۔ تمام دن فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بھی بیوی۔ لڑکے۔ بہوئیں۔ پوتے اور پوتیلیاں سبھی کچھ ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزارہ نہایت اچھا چل رہا ہے اور کوئی شکایت نہیں۔ اور آج تک کبھی کسی سے ایک پیسہ تک نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو تمھوڑا رزق بھی بہت بن جایا کرتا ہے اگر برکت نہ ہو تو رزق کی بہتات کے ہوتے ہوئے بھی "ہائے ہائے نہیں جاتی اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا:

ایک دفعہ شام کے وقت میں لیٹا ہوا تھا کہ دو شخص آئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی عین کی خدمت

کا کام بتلایئے۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید چھپوانا ہے۔ میرے دوست کراچی میں شیخ عنایت اللہ صاحب ہیں۔ ان کے حساب کے مطابق ۲۷۵ ہزار روپیہ لگتا ہے۔ باتیں شتم کر کے وہ دونوں چلے گئے۔ ابھی آٹھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ چھاس ہزار روپیہ دونوں کی طرف سے آگیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ انہیں جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا۔ خدا معلوم کون تھے؟



ایک دن عشاء کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ میں نے اُس سے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپ صبح تشریف لائیں۔ وہ صبح پھر آیا۔ اپنے تھیلے سے اُس نے ”خُذْ أَمْرَ الدِّينِ“ نکال کر کہا۔ کہ میں کنجر ہوں۔ اس کو پڑھ کر میں نے میری بیوی، میرے بھائی، میری بھانجی اور ہماری لڑکیوں، سب نے توبہ کی ہے۔ اُس نے کہا کہ میرا اپنا مکان ہے جو اس وقت کم از کم تیس ہزار روپے کا ہے۔ لیکن وہ حرام کی کمائی کا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مکان الاٹ ہو جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اُس کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ کیونکہ میں افسروں سے راہ و رسم نہیں رکھتا۔



میرے پاس ایک عورت آئی جس نے مجھے بتلایا کہ میرا خاوند آوارہ مزاج تھا۔ میرے چار لڑکے ہیں۔ چاروں کو میں نے محنت مزدوری کر کے ۱۲۶۱۲ و ۱۲۰۱۲ جمعیت تک پڑھایا۔ بڑا لڑکا ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ لیتا تھا اب وہ بدبخت مر گیا ہے۔ مجھے چاروں ایک پیسہ نہیں دیتے جب مانگتی

ہوں تو کہتے ہیں ہماری بیویوں سے لو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کا باپ
 مر گیا ہے۔ اور وہ بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ ماں زندہ ہے۔ وہ بازار سے حلوہ
 پوری لاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ ماں دیکھتی رہتی ہے اور
 پھر کہتا ہے خبر نہیں کیا کھاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ خدا کے غضب سے
 نہیں ڈرتے میرے پاس عورتیں تعویذ لینے کے لئے آتی ہیں اور اس قسم کے
 واقعات سنا جاتی ہیں :



بیاچہ کلارم*

اشعار و منظومات

اس باب میں اردو اور فارسی کے وہ اشعار اور مصرعے دلچسپ ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان گوہر بار سے وقتاً فوقتاً صادر ہوئے۔

مص

بے میوہ زمیوہ رنگ گیرد ع

گوش گذشتہ اثرے دارد ع

او خوشین گم است کرا رہبری کند ع

بے ادب محروم ماند از فضل رب ع

خبث نفس نگرود بسا لها معلوم ع

خوشی معنی با دارد کہ در گفتن نمی آید ع

نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین ع



اشکال

تہیدستان قسمت را چہ سوو از بہر کابل
کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را

★

ولا تورسم محلق ز مرغ آبی جو!
اگر چہ غرق بد ریاست خشک پر بخت

★

صدقے میں تیری ساقی مشکل آسان کر دے
ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے

★

نفس مایاں کم تر از فرعون نیست
لیک اورا عون مارا عون نیست

★

خاکساران جہاں را بحقارت منگر
تو چہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد

★

کنڈھم جنس باہم جنس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز

☆
بسنده آمد از برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی

☆
ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشنده

☆
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

☆
نہ تھی حال کی جب کہ اپنے خبر۔ نظر آتے تھے رب کے عیب و مہر
پڑھی حال پہ جب کہ اپنے نظر۔ کسی کا کوئی عیب ہی نہ رہا

☆
در دے کے واسطے فندل لگانا چاہیے
اس کا گھسنا اور لگانا اور دوسرے بھی تو ہے

☆
دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا : سر سر موم ہو یا سنگ ہو جا

در میان قعر دریا تختہ بندم کرده
باز می گونی کہ دامن تو تکمن پیشیا رباش

★

عاشقان را سہ علامت اے پسر
آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر

★

نہ صورت نہ سیرت نہ خاشن نہ خط
بمحبوب نامش نہا دند غلط

★

رنگی کو نارنگی کہیں دودھ کڑھے کو کھویا
چلتی ہوئی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا

★

قال را بگذار و بگر سوئے حال
بر اشہد تو خندہ زندا سہد بلالؓ

★

قال را بگذار مرد حال شو
پیش مروے کاٹے پامال شو

★

یک زمانہ صحبتے با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

*

بمئے سب سادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید
کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزل لہا

*

اگر بنیم کہ نابینا و چاہ است
و گر خاموش بنشینم گناہ است

*

نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پروے کی یہ پابندی
نہ گھونگٹ اس طرح سے صاحب روئے صنم ہوں گے

*

کریماں را بدست اندرز و رہم نیست
خداوندانِ نعمت را کرم نیست

*

مشکلے نیست کہ آساں نشود
مرد باید کہ ہر آساں نشود

*

دوستاں را کج کنی محروم
تو کہ با دشمنان نظر داری

★
نہ کلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم
بسحیر تم کہ دیہقان بچہ کار کشت مارا

★
سب کو یہ مسلم ہے کہ معبود وہی ہے
کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

★
کیا کہوں احباب کیا کارنمایاں کر گئے
بی اے ہوئے، نوکر ہوئے، نیشن ملی اور مر گئے

★
جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

★
دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد
اگر باشد بنی آدم نہ باشد

★

خلاف پیر کے راہ گزید
کہ ہرگز مبتذل نخواہد رسید

*

آرزو دارم کہ خاکِ آں قدم
نوتیائے چشم سازم دم بدم

*

بدی را بدی سہل باشد جزا
اگر مردی احسن الی من اساء

*

سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا
سرخ و سپید مٹی کی صورت ہوئی تو کیا

*

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نباید داد دست

*

مقت منہ کہ خدمتِ سلطان بھی کنی
مقت از و شناس بخدیت گذاشتت

*

بہر سائیں جی دانما، قہر سائیں جی گاہ گاہ
ہیں ہو جے تان واہ واہ ہوں تے تان واہ واہ

از مکافات غسل غافل مشو
گندم از گندم بر وید جو ز جو

چشم بند و گوش بند و لب بند *
گر نہ بینی نہ تر حق بر ما بخند *

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی *
کہ دریں راه فلاں ابن فلاں چیرہ نیست *

دلوں میں الفتِ باہم کا دم تک جوش ہوتا ہے *
مرے کا تو جنازہ بھی وبالِ دوش ہوتا ہے *

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی ہنسٹم بھی *
یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے *

طاٹروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا *
اپنی منقاروں سے حلقہ کس سے ہیں جال کا *

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا *
کارواں کے دل سے احساسِ نریاں جاتا رہا *

سیدہ کاریوں کو نہ یوں مول لیجے
 وہ آتش ہے اخلاق جس سے بھسم ہے
 تمہاری طرح بھی نہ غافل ہو کوئی
 تھانا موس باقی سویوں اس کو پھوڑا
 یہی ہے جو ابلیس کی پاسداری
 تو آگاہ رہنا اجل کی ہے باری
 مسلمان لڑکی پیری کاجوں کی
 چکا چوند میں اک جہاں مبتلا ہے
 وہ مصنوعی انداز میں شرم کھانا
 یہی ہے نئی روشنی کا زمانہ
 غضب یہ کب تک عقیدہ رہیں گے

(نفیس خلیل)

کھلی صنف نازک کے حق میں دفاع ہے
 تو اسکول و کالج سے کیجے کتنا
 یہ اہل جنان ہے جلاؤ نہ اس کو

(نفیس خلیل)

آؤ گوش ہوش سے سن لو مجھ لو بات کو
 ہو گیا نذر ترقی دامن ناموس و تنگ
 پردہ رہنے کی نظر آتی نہیں کوئی امید

خطرناک تسلیم ہے ہوش کیجے
 مجھے اُسوہ فاطمہؓ کی قسم ہے
 ہے پر عیب حجت مری عیب جوئی
 حکومت کے ہمراہ مذہب بھی چھوڑا
 یہی ہے جو تسلیم نسواں تمہاری
 یہی ہے جو اندازِ غفلت شعاری
 وہ بدنام جلوہ گری کاجوں کی
 جو گھر سے چلی ایک فتنہ بیا ہے
 نائش کی خاطر وہ صورت چھپاتا
 نگاہیں لڑانا ادائیں دکھانا
 اسے آپ دور ترقی کہیں گے؟

سکولوں میں یوں بھیجنا تو اسے
 نہیں میں اگر حمل واغوا گوارا
 ان آتشکدوں میں گراؤ نہ اس کو

آؤ آنکھیں ہیں تو دیکھو صورت حال کو
 دیکھتے ہو ملک میں قوموں کے کیا بدلے رنگ
 کس طرف لیجا رہی ہے تم کو تہذیب جدید

یہ ہماری ماٹیں بہنیں اور بیوی بھینیاں
اس قدر پاک و مقدس اتنی محبوب و عزیز
ہم سچانا چاہتے ہیں ان کو چشم غیر سے
یہ نالائش جس پہ اس دنیا کے لوگوں سے غرور
ہم نہ لائیں گے انہیں اس امتحان کی راہ میں
اب مسلمانوں میں بھی نکلے ہیں کچھ روشن خیال
چاہتے ہیں ماؤں بہنوں کو یہ عریاں دیکھنا
بادۂ تعلیم مغرب سے جو ہوتے ہو خراب



ملک میں تسلیم موجودہ کا جو آئین ہے
ہو چکا اب تک جو فرزند ان ملت کیلئے
کر دیا لڑکوں کو تم نے اس قدر روشن خیال
تم نے جن آقاؤں کا ان کو بنایا تھا غلام
کیا یہی تسلیم دو گئے دختران قوم کو؟
کیا خدا کے فضل سے تم ہو چکے ہو نا امید؟
دوستو اللہ کا پیغام زندہ ہے ابھی



ہم سمجھتے ہیں انہیں اتنا مقدس کہاں
جس قدر عورت کی عفت ہے ہمیں کوئی چیز
کیونکہ ہم واقف ہیں اس دنیا کے شر و خیر سے
دختران ملت اسلام ہیں ان سے نفور
دل کے ٹکڑوں کو نہ رکھیں گے نالائش گاہ میں
جنکی نظروں میں حجاب صنف نازک ہے وبال
مغفلیں آباد لیکن گھر کو دیراں دیکھنا
کیا تمہیں مسرور کر سکتی نہیں ام الکتاب
(حفیظ جالندھری)

دختران ملت بیضا کی یہ توہین ہے
وہ بہت کافی ہے اس ملت کی ذلت کیلئے
ویدہ افلاس کی زینت ہے اب ان کا جمال
اب آقا بھی نہیں لیتے غلاموں کا سلام
کیا اسی الجھن میں الجھاؤ گے جان قوم کو؟
کیا پیٹر سے بھی اب ملتی نہیں تم کو نوید؟
مر رہے ہو تم مگر اسلام زندہ ہے ابھی
(حفیظ جالندھری)

تھی یہی اک راہ اس روشن خیالی کیلئے
 کیا کوئی صورتِ نہایت ہے رخ بدلتے کیلئے
 بند ہے اب چاکری مُسلم سوائی کیلئے
 کیا کوئی رستہ نہیں ہے بچ آنکلنے کیلئے
 آزمودہ ہے یہ نسخہ دین کی تعلیم کا
 آخر اس تعلیم سے پیرہیز کیوں کرتے ہو تم؟
 کون مانع ہے تمہیں کس بات سے ڈرتے ہو تم؟

حفیظ جالندھری

وضع و روش اطفال کی ہے قوم پر بارگراں
 کہتے ہیں لڑکے بھی مگر کالج سے فرصت کہاں
 ریموں کا شکوہ اک طرف نہ رہے گا و تا اک طرف
 یہ ساری باتیں اک طرف اور پاس ہونا اک طرف
 بسے اُس جا کہ آواز اذال بھی آنہیں سکتی
 میری ایت تو نغمہ خوشی کا گاتہیں سکتی
 تمہیں کوناز ہوائے نوجوانوں اس طریقہ پر

اکبر اللہ آبادی

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
 آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا
 بہر کارے کہ ہمت بستہ گردو
 اگر خارے بود گلدستہ گردو
 عصرے من پییرے ہم آفرید
 آنکہ در قرآن بغیر از خود ندید
 (اقبال)

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد

انہوں نے دین کب سیکھا ہے جاگر شیخ کے گھر میں
پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں
(داکٹر الہ آبادی)

تعلیم یافتہ ہوں اور نیک بخت بھی ہوں
تم سے رہیں ملائم شیطان پر سخت بھی ہوں
قرآن ہی کرے گا ان بی بیوں کو پیدا
پاکیزہ تخم جب ہوں عمدہ درخت بھی ہوں
(داکٹر الہ آبادی)

آنچہ شیراں راکند رو بہ مزاج احتیاج است، احتیاج است احتیاج

دارہستی کچھ سہی لیکن یہی پایا گیا بے خبر ہنستے رہے اور باخبر رویا کئے

برزباں تسبیح و در دل گاؤ خسر این حنین تسبیح کے وارد اثر

پدیرہ عقیدت

سب سے پہلے ہمارا اولیاء کا تاجدار

پیکرِ ہر و محبت، خلق کا آئینہ دار

حاملِ قرآن تھا وہ صاحبِ اسرار تھا

دوستوں کا دلنواز اور دشمنوں کا دوستدار

دامنِ احمد علی سے جس کی ہو وابستگی

یہ سعادت ہے یقیناً مایہ صدافتخار

حشر کے میدان میں بھی اے خداوندِ کریم

ہو عطا ہم سب کو قربِ حضرت والا تبار

ان کے صدقے میں ہمیں بھی بخش رت دو جہاں

جن کی تربیت سے اٹھی تھی اک ہوائے مشکبار

ہیں حبیب اللہ، عبید اللہ، حمید اللہ سبحی
 سالکانِ راہِ حق و پناہِ طینت با وقار
 آپ کے حصّہ میں آئی مسندِ احمد علیؑ
 اے عبید اللہ انور! یہ ہے فضلِ کردگار
 ہوں عبید اللہ انور کو وہ حاصلِ رفعتیں
 جن کے حامل تھے ہمارے ہادیِ شہدہ وار
 یا الہی میرے ہادی پر ہوں تیری رحمتیں
 اُن کا جنت میں مکاں ہوا ہے مرے پروردگار
 جس نے پایا فیضِ صحبتِ پرِ کاملِ کاغنیؑ!
 کامرانی سے ہوا لاریب وہ ہی ہمکنار
 بارشیں انوار کی ہوں روحِ ہو حضرت کی شاد
 ایں دُعا از من و از جملہ جہاں آمین باد
 (محمد عثمان غنیؑ کے)

امیر پرنٹنگ پریس۔ جی۔ ٹی۔ روڈ شاہدہ۔ باہنما۔ حاجی کرم دین چھپا

DATA ENTERED

مَثَلٌ كَلِمَةٍ كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَمَرٌ وَأَوْقُوعُهَا رِيحٌ

نورِ حَقِّكَ كَا جِهَانِ أَجَالَا

بُولِ أَحْمَدِ عَلِيِّ كَا يَا لَآ

ملفوظات احمد علی
مولانا
رحمۃ اللہ علیہ

شیخ طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ قطب الاقطاب، شیخ التفسیر
حضرت مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریروں کے اقتباسات کا
ایک گر انقدر اور بے مثال مجموعہ

مرتبہ

محمد عثمان غنی بیٹا

دفتر انجمن خدام الدین اندرون وازہ شیر نوالہ لاہور

ہدیہ ہفتین روپے

اگست ۱۹۶۷ء

باراول - تعداد ایک ہزار

Marfat.com